

امام اعظم ابو حنيفهؒ

شہید اہل بیتؑ

تالیف

مفتی ابوالحسن شریف اللہ الکوثری

الفاضل و المتخصص فی الفقہ الاسلامی

جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ناؤن کراچی

ناشر

مکتبہ سلطان عالمگیرؒ

۵ لوئر مال اردو بازار لاہور

نام کتاب امام اعظم ابوحنيفه شهيد اہل بيت
نام مصنف مفتي ابوالحسن شريف اللہ الکوثری
ناشر مکتبہ سلطان عالمگیر لور مال لاہور۔
مطبع اولپيا آرٹ پريس لاہور
طباعت بار اول ۱۴۲۷ھ 2006
پیشکش حسن چینی بابا دارالحسن سکردو بلتستان

darulhassan_1@yahoo.com Tel: 5831-55504



امام اعظم ابو حنیفہؒ

شہید اہل بیتؑ

پیش لفظ

امت مسلمہ کی فکری و ذہنی ارتقا کیلئے عموماً اور علماء و ائمہ امت کے حق میں خصوصاً فکری و تحقیقی جمود و رجعت سم قائل ہے۔ قرآن کریم میں رحیم و خیر ذات نے کتنے واقعات بیان کئے ہیں اور بیان واقعہ کا مقصد آنے والے لوگوں کے لئے عبرت اور سبق بتلایا گیا تاکہ واقعات سے امت رہنمائی حاصل کرے۔ اسے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہو بڑے سے بڑے حکمرانوں جن میں سے مسلمان اور کافر دونوں تھے ان کا ذکر اور ان کی دیندار عوام اور قیادت سے چپقلش اور تصادم کا ذکر بھی قرآن و حدیث کا موضوع سخن رہا ہے تاکہ اہل ایمان ان تصادم و چپقلش سے برآمد ہونے والے اسباق سے ایمان کی قدر اور عزیمت کی راہ تلاش کریں اور انہیں عبرت کا ساماں میسر ہو۔

امام اعظم کو بھی اپنی حیات طیبہ میں اپنے وقت کے دو بڑے حکمران خاندانوں سے واسطہ ہوا اور دونوں کا ایک دوسرے سے انتہائی بعد و نفرت پائی جاتی تھی اصحاب عزیمت اصلاح و ارشاد کیلئے خاندانی حکومتوں کے یہ ادوار جو کہ امام صاحب نے دیکھا بہت ہی صبر آزار رہا۔ امام صاحب کی ان حکمرانوں سے چپقلش خالص دینی بنیادوں پر گئی عشروں تک جاری رہی یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہوئی آپ کی شہادت کے اسباب کے بیان میں بھی روایتی جمود اور تغافل سے کام لیا گیا ہے پیش نظر کتاب میں امام اعظم کے خون ناحق جس قیمت پر بہایا گیا اس قیمت پیش بہا کی تحقیق، تعین مقصود ہے۔

پیش نظر کتاب ایک خالص تحقیقی کاوش ہے اور عاجز کو اپنی کم علمی اور کم ہمتی کا پورا احساس ہے لیکن باوجود محدود ذرائع کے مقدمہ کے مضبوطی کیلئے معتبر ترین اور مستند ترین قدیم و جدید کتب سے استفادہ کیا گیا ہے اور توقع ہے کہ ”مقدمہ شہید اہلیت“ کیلئے ہزاروں شواہد انکشاف کے انتظار میں اور اوراق کتب میں مدفون ہوں گے۔ مطالعہ اور تحقیقی ذوق سلیم رکھنے والے احباب و اہل علم سے التجا ہے کہ شواہد ملنے پر عاجز سے علمی تعاون فرمائیں۔

پیش نظر کتاب کے تیاری میں جملہ اغلاط اور نقائص دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے لیکن

بتقاضائے بشریت غلطیوں کا امکان رہتا ہے۔ بالخصوص اردو زبان دانی میں کیونکہ میری مادری زبان اردو نہیں ہے۔
قارئین متنبہ فرما کر علمی ذمہ داری پوری فرماویں۔

الغرض پیش نظر مجالہ میں اگر کسی کو محاسن نظر آئیں تو یہ ان کی برکت ہے جن کے ذکر میں کتاب لکھی گئی ہے
اور سیدی و سندی مرشد العلماء محبوب الصلحاء حضرت شہاد سید نفیس الحسینی دامت
فیو ظہم کے توجہات کاملہ کا کرشمہ ہے اور کتاب کا نام بھی آپ نے ہی تجویز فرمایا اللہ تعالیٰ اس سہمی کو قبول فرمائے
اور بندہ کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہمارے دلوں کو محبت رسول ﷺ، صحابہ و اہل بیت کا مسکن و مدفن بنائے۔
آمین بجاہ سید المرسلین و بحرمة الطیبین الطاہرین و أصحابہ أجمعین



امام اعظم ابوحنیفہؒ شہید اہل بیتؑ

یو حنیفہؒ اُفقہ اہل زمان
ہیں شہید آل سرکار جہاں

ناشق آل محمدؐ مصطفیٰ
بوحنیفہؒ پیشوائے سنیوں

مرقزیؒ و فاطمیؒ و ابنا ہما
سب سے نفرت اور محبت تھی عیاں

باقرؒ و جعفرؒ کے ہیں تلمیذ آپ
مجتہد ہیں گرچہ اعظم کامران

آپ شاکر رشید زید بھی
یعنی ہیں شاکر سادات زمان

حامی زیدؒ و براہیمؒ وزکیؒ
حامی آل نبیؑ و اہل شان

آپ کو محبوب اتنے اہل بیتؑ
خارجی ناراض رہتے بے گمان

قتل کے درپے رہا منصور بھی
وجہ و علت کتب سید زادگان

یو حنیفہؒ کی شہادت قید میں
کتب آل مصطفیٰ کی داستاں

بیروی میں آپ کی محسنیٰ کا دل
کتب اہل البیتؑ کا ہو آشیاں

۱۔ مداح صحابہ و اہل بیت شاعر اہل سنت حضرت مولانا شیخ الحدیث احسان اللہ محسن دامت برکاتہم فاضل مخلص جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
مہتمم جامعہ صدیقیہ حنفیہ براہ چلوہستان۔

انتساب

بہار گشتن اہل بیتؑ سبط رسول ﷺ سردار جوانان جنت، شہید مظلوم
سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اور خاندان نبوت کے 16 پاکیزہ روحوں سمیت
72 شہداء کربلا کے نام جنہوں نے امت کو حریت فکر اور عزیمت و

استقلال، وفا اور قربانی کا لازوال درس دیا

رضی اللہ عنہم و رضوانہ

اے سب اے پیک دور افتادگان

اشک ما بر خاک پاک او رنماں

خاکپائے سادات

مفتی ابوالحسن شریف اللہ الکوثری

فاضل و المتخصص فی الفقہ الاسلامی


جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

رئیس

دار الافتاء والقضاء

الجامعۃ الاسلامیہ سیٹلائٹ ٹاؤن

سکردو بلتستان



حرفِ نفیس

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده

پیش نظر کتاب "شہید اہلبیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ" کے مؤلف مولانا مفتی شریف اللہ علاقہ بلتستان کے رہنے والے ہیں، جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فارغ التحصیل ہیں وہاں سے افتاء کا تخصص بھی کیا ہے، حنفی المسلك اور اہلبیت و صحابہ کرام سے غایت درجہ محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں، پاکستان میں ناصبی رجحانات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سدباب کیلئے انہوں نے حمیت اسلامی کے تحت یہ کتاب ترتیب دی ہے۔

مسلك اہلسنت والجماعت کی کامیاب ترجمانی کی ہے مستند حوالوں سے انہوں نے اپنی کتاب کو اہل علم و فضل کے سامنے پیش کیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلبیت کرام سے محبت انکی تحقیق کا مرکزی نقطہ ہے امام ابو حنیفہ بجا طور پر شہید اہلبیت ہیں انہوں نے ہشام بن عبد الملک اموی کے خلاف حضرت امام زید بن علی زین العابدین حسینی رضی اللہ عنہما اور جعفر منصور عباسی کے مقابلے میں حضرت محمد ذوالنفس الزکیہ اور انکے بھائی ابراہیم حسنی رضی اللہ عنہما کا جرأت و پامردی سے بر ملا ساتھ دیا حتیٰ کہ منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ امام ذہبی نے برحق لکھا ہے

"بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ منصور نے انکو زہر دیا تھا (حضرت محمد ذوالنفس الزکیہ کے بھائی) ابراہیم کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہوں نے شہادت کی موت پائی" نیز دوسرے تذکرہ نگاروں نے بھی اسکو بیان کیا ہے،

اللہ تعالیٰ مؤلف عزیز مولانا مفتی شریف اللہ صاحب کی عمر شریف اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آخرت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلبیت اور صحابہ کرام کے ساتھ محشور فرمائے۔ آمین

احقر

از: حضرت مولانا قاضی الطہر مبارک پوری

اقتباس

امام صاحب کو اپنے زمانہ کے حکمرانوں کے ہاتھوں بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تھی، اموی دور میں امیر عراق ابن ہبیرہ نے آپ کو عہدہ قضا پیش کیا اور انکار پر ایک سوہن کوڑے اس طرح رسید کئے کہ روزانہ ایک گھوڑ پر بجا کر دس کوڑے مارے جاتے تھے اور امام صاحب انکار کرتے تھے، اس کے بعد عباسی دور میں پھر ان کو عہدہ قضا پیش کیا گیا اور انکار پر زہر دیدیا گیا۔

عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر ڈڑے مارنے یا زہر دیکر جان لینے کی اندرونی وجہ کچھ اور تھی، امام صاحب کے نزدیک اموی اور عباسی امراء اسلام کے جاؤد مستقیم سے دور تھے اور ظلم و جور میں تعاون کے مترادف تھا، اس دور کے محتاط اہل علم و فضل کا یہی رویہ تھا اور وہ ان حکومتوں میں کسی قسم کا عہدہ لینا معصیت سمجھتے تھے، امراء و خلفاء ان کے رویہ سے غیر مطمئن اور خائف رہا کرتے تھے، اور کسی بہانہ سے اپنا ہمو اہنانے کی کوشش کرتے تھے، بڑے بڑے عہدے اور بھاری بھاری رقبے پیش کر کے ان پر دباؤ ڈالتے تھے، یہی صورت حال امام صاحب کے ساتھ تھی، امام صاحب ان کے مقابلہ میں علوی دعاۃ کے حق میں تھے، اسی لئے ابو جعفر منصور نے عہدہ قضا قبول نہ کرنے کے بہانے سے جیل خانہ میں زہر دلوایا۔

خطیب بغدادی نے زفر بن ہذیل کا بیان نقل کیا ہے کہ ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب قاتل باختری کی دعوت و خروج کے زمانہ میں امام صاحب نہایت زور و شور سے ان کے موافق بات کرتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہماری گردنوں میں رسی ڈلو کر ہی خاموش ہوں گے، اسی حال میں ابو جعفر منصور کا پیغام امیر کوفہ عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس آیا کہ ابو خلیفہ کو ہمارے پاس بھیجو، چنانچہ امام صاحب کو بغداد لیجا یا گیا، جہاں پندرہ ۱۵ دن تک وہ زندہ رہے، پھر ان کو زہر دیا گیا اور انتقال کر گئے۔

ابراہیم بن عبد اللہ نے اپنے بھائی محمد انیس الزکیہ کے قتل کے بعد بصرہ و خروج کر کے اپنی دعوت دی، ابو جعفر منصور نے اپنے چچا زاد بھائی اور امیر کوفہ عیسیٰ بن موسیٰ کو لکھا اور وہ پانچ ہزار فوج لے کر آیا، کوفہ کے قریب مقام باختری میں مقابلہ ہوا، اور ابراہیم بن عبد اللہ معرکہ میں کام آئے، یہ واقعہ ۱۲۵ھ کا ہے، امام صاحب ابراہیم بن عبد اللہ کے زہمو آؤں اور طرفداروں میں تھے، ذہبی نے لکھا ہے۔

وقدروی ان المنصور سقاط السمّ فمات شهيداً ارحمه الله لقيامه مع ابراهيم بن
بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ منصور نے ان کو زہر دیا تھا اور ابراہیم کا ساتھ لینے کی وجہ سے انہوں نے شہادت کی موت پائی۔
نیز دوسرے تذکرہ نگاروں نے اس کو بیان کیا ہے،

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۹	موذۃ القرنی	1
۱۹	اہل سنت مسلک اعتدال	2
۲۰	مثیل عیسے!	3
-	امام شافعی اور اہل بیت	4
۲۱	تحقیق آل و اصل	5
۲۳	آل و اصل کے مصداق	6
۲۵	اولاد علیؑ اولاد رسول ﷺ ہے	7
۲۵	امام بیہرگی جرأت و قوت استدلال	8
۲۶	سیدنا موسیٰ کاظمؑ کی حاضر جوابی	9
۲۷	آل وہ ہیں جن پر صدق حرام ہے	10
-	صدق کی حرمت انکا اعزاز اور کرامت ہے	11
۲۸	قیامت کو قربت نبوی ﷺ	12
۲۹	مقبول نماز کونسی ہے	13
۳۰	درود کیسے پڑھیں	14
۳۱	ساجات کیلئے اکسیر	15
۳۱	لحاظ رشتہ	16
۳۲	تفسیر مودۃ القرنی	17

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۳۳	سلاسل تصوف کی بنیاد و سرچشمہ اہل بیتؑ ہیں	18
۳۵	احسان کا بدلہ	19
۳۵	اہل بیتؑ عظام کے بارے اہل سنت و الجماعت کا نکتہ نظر	20
۳۶	حضور ﷺ کی اپنی اولاد کے بارے امت کو وصیت	21
۳۸	ظاہری و باطنی لحاظ سے پاک لوگ	22
۳۹	اہل بیتؑ کی تعظیم شعائر اللہ کی تعظیم ہے	23
۴۰	مسلك حقہ	24
۴۱	مودۃ القربی کے مصداق	25
۴۲	محبت اہل بیتؑ تکمیل ایمان	26
۴۳	حضور ﷺ کا رشتہ باعث نجات ہے	27
۴۳	عجیب اور قوی استدلال	28
۴۵	قول فیصل	29
۴۶	بزرگوں کو اپنی اولاد کا خیال رشتا ہے	30
۴۷	فاروق اعظمؓ کی حضور سے رشتہ داری کیلئے کوشش	31
۴۸	امام شامیؒ کا فیصلہ و فتویٰ	32
۴۹	عزیزت نبوی اکابرین امت کے نظر میں	33
۴۹	خليفة رسول ﷺ اور آل رسول ﷺ	34
۴۹	شہیدہ الرسول ﷺ	35
۵۰	ابوبکر صدیقؓ اور تعظیم اہل بیتؑ	36

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۵۰	تکریم اہل بیت <small>علیہم السلام</small> کی دلداری ہے	37
۵۰	سادات کی دیدار بھی عبادت ہے	38
۵۱	فاروق اعظم اور اہل بیت	39
۵۱	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی خوشی میں اپنی خوشی	40
۵۱	قرب الی اللہ کے لیے قربی رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے قرابت	41
۵۳	ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں	42
۵۳	اہل بیت کی عیادت و زیارت عبادت ہے	43
۵۴	اہل بیت سب پر مقدم ہیں	44
۵۴	دلداری حسنین کیلئے ہمہ وقت بے چین	45
۵۴	قرابت رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے اس طرح پیش آئیں	46
۵۵	عمر ثانی اور اہل بیت	47
۵۵	اولاد کی راحت سے انہیں بھی راحت ملتی ہے	48
۵۶	قرابت رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے پہنچنے والی تکلیف کو تکلیف ہی نہیں جانا	49
۵۶	اہل بیت کی تکریم میں حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی تکریم ہے	50
۵۵	امام اعظم اور اہل بیت	51
۵۷	امام شافعی اور اہل بیت	52
۵۹	امام احمد بن حنبل اور اہل بیت	53
۵۹	سیدنا علی المرتضیٰ کا دفاع	54
۶۰	ناصریوں سے علی المرتضیٰ کا دفاع	55

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۶۱	اتباع اہل بیتؑ کی تصویب اور عادلانہ دفاع	56
۶۲	محدثین کے ہاں اہل بیت کا مقام	57
۶۳	حضرت امام علی رضاؑ سے محدثین کی سماعت حدیث	58
۶۳	سلسلہ ذہب	59
۶۴	نام بھی باعث برکت و شفا ہے	60
۶۴	حضرات حسینؑ اور محمد بن حسینؑ کیلئے حضور ﷺ کی دعا	61
۶۵	رشتوں کی پاسداری ہر مومن کی ذمہ داری	62
۶۶	فیروں کی عیاری اور اپنوں کی سادگی یا بے رخی	63
۶۸	نام و نسب	64
۶۹	تاریخ ولادت	65
۶۹	امام اعظمؑ کو خراج عقیدت پیش کرنے والے ائمہ کرامؑ	66
۷۱	خاندان نبوت سے تعلقات	67
۷۱	تعلقات کی ابتدا	68
۷۲	خاندان نبوت سے کسب علوم	69
۷۳	امام صاحب کی حضرت علیؑ سے روایات	70
۷۳	مشاجرات میں حضرت علیؑ مجتہد مصیب	71
۷۴	حضرت سیدنا علیؑ کا درجہ فضیلت	72
۷۵	اتباع باب العلم	73
۷۵	دفاع سیدنا علیؑ	74

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۷۷	حضرت امام اعظمؒ کی جرأت و ذہانت	75
۷۸	خاندان نبوت سے رشتہ نشاگردی	76
۷۸	حضرت زید بن علیؑ سے علمی تعلق	77
۸۰	سیدنا محمد الباقرؑ سے تعلق	78
۸۳	فاروق اعظمؓ اہل بیتؑ کے نظر میں	79
۸۵	امام جعفر صادقؑ سے تعلق	80
۸۶	امام اعظمؒ کو افتاء و ارشاد کی اجازت	81
۸۸	حضرت ابو محمد عبداللہ بن حسن بن حسنؑ سے تعلق	82
۸۹	مذہب حنفی کے قبولیت میں اہل بیت کا اثر ہے	83
۹۰	امام موسیٰ کاظمؑ سے تعلق و ملاقات	84
۹۱	امام اعظمؒ کے دور کے سیاسی حالات	85
۹۲	اموی دور حکومت	86
۹۳	عباسی دور حکومت	87
۹۴	امام اعظمؒ کا سیاسی نظریہ اور اسکی بنیاد	88
۹۶	حضرت زید بن علیؑ کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ غالب	89
۹۷	زید بن علیؑ کی نصرت و تائید	90
۹۷	حضرت زیدؑ سے رابطے	91
۹۸	امام صاحب کی محبت اہل بیتؑ اہل بیتؑ کی زبانی	92
۱۰۰	امام صاحب کا فتویٰ حضرت زیدؑ کی تائید میں	93

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۰۰	حضرت زیدؓ کا جہاد بدر کے جہاد کی طرح ہے	94
۱۰۰	حضرت زیدؓ کیلئے مختلف النوع امداد	95
۱۰۱	شہادت	96
۱۰۳	امام اعظمؓ کو اموی حکمرانوں کی طرف سے ابتلاء	97
۱۰۴	اموی گورنر ابن ہبیرہ کی سازش اور امام صاحب کی بصیرت	98
۱۰۴	امام صاحب کی استقامت	99
۱۰۵	امام صاحب کی ہجرت مکہ	100
۱۰۶	عباسی دور اور ابتدائی تعلقات	101
۱۰۷	محمد بن عبداللہ ذوالنفس الزکیہؓ کی اصلاحی تحریک	102
۱۰۸	امام مالکؓ کا فتویٰ	103
۱۰۹	امام صاحب کی کامیاب حکمت عملی	104
۱۱۰	ابراہیم بن عبداللہؓ کی تحریک	105
۱۱۱	منصور کا تعاقب تحقیق و تفتیش	106
۱۱۳	منصور کی کامیاب سازش	107
۱۱۳	امام صاحب کی اعلانیہ تائید و نصرت	108
۱۱۴	ابراہیمؓ کی حمایت میں شہادت بدر کی شہادت ہے	109
۱۱۵	حضرت ابراہیمؓ کی نصرت کا مقام امام صاحب کی نگاہ میں	110
۱۱۶	حضرت ابراہیمؓ کی شہادت	111
۱۱۶	امام اعظمؓ کی حق گوئی و بیباکی	112

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۱۷	امام صاحب کا استقلال فکر و نظر	113
۱۱۸	حضرت عثمان غنیؓ کا عادلانہ دفاع	114
۱۱۹	امام اعظمؒ کی حکیمانہ طرز تبلیغ و دفاع	115
۱۲۰	عباسی حکمرانوں کی طرف سے ابتلاء	116
۱۲۰	امام اعظمؒ کا اختیار عزیمت	117
۱۲۱	حکمرانوں کی تدبیریں اور سازشیں	118
۱۲۳	شہادت ایک حقیقت	119
۱۲۳	امام ابن کثیرؒ کی شہادت	120
۱۲۳	امام ابن جوزیؒ کی شہادت	121
۱۲۳	امام ذہبیؒ کی شہادت	122
۱۲۳	امام ابن عبد البرؒ کی شہادت	123
۱۲۶	ساداتؓ کی اپنی شہادت	124
۱۲۷	امام مناویؒ کی شہادت	125
۱۲۸	امام قاضی صیرفیؒ کی شہادت	126
۱۲۸	امام موفقؒ کی شہادت	127
۱۲۹	امام ابن حجرؒ کی شہادت	128
۱۳۰	امام کردریؒ کی شہادت	129

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَوَدَّةُ الْقُرْبَىٰ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَ عَلٰی
اٰلِهِ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ وَ عَلٰی اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہر کام میں اعتدال کا علمبردار ہے چنانچہ عقیدت اور محبت میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلی امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تب بھی اور اس امت مرحومہ کی تاریخ دیکھیں ہر دو صورت میں لوگ مختلف برگزیدہ شخصیات کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ ایسے لوگ حقیقت میں جذبہ عقیدت و محبت اور نفرت و عداوت میں اعتدال کی راہ سے بھٹک گئے۔ یہی فکری کج روی امت مرحومہ میں انتشار کا سبب بنی کہ اس المیہ میں غیروں کی فکری غارتگری بھی شامل تھی لیکن بنیادی سبب لوگوں کی حد سے بڑھی ہوئی عقیدت تھی۔ اس کی واضح مثال رسالت پناہ ﷺ کی زبان مبارک سے امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہوئی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا:

یا علی یدخل النار فیک رجلاں محب مفروط و مبغض مفروط کلاهما
فی النار ۱۔

ترجمہ: فرمایا اے علی آپ سے متعلق دو آدمی جہنم میں جائیں گے ایک وہ شخص جو
آپ سے محبت میں افراط کا شکار ہوگا اور دوسرا وہ جو آپ سے نفرت میں تفریط کا شکار
ہوگا۔

اہل سنت مسلک اعتدال

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ:
”پس حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی محبت میں افراط و تفریط کے درمیان جن کو
رافضیوں اور خارجیوں نے اختیار کیا ہے۔ اہل سنت و الجماعت متوسط ہیں اور شک نہیں

کہ حق وسط میں ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔

مثیل عیسیٰ

حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر المومنینؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تجھ میں عیسیٰ کی مثال ہے جن کو یہودیوں نے یہاں تک دشمن سمجھا کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا اور نصاریٰ نے اس قدر دوست رکھا اور ان کو اس مرتبہ تک لے گئے جس کے وہ لائق نہیں تھے یعنی ابن اللہ قرار دیا۔ پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو شخص میرے حق میں ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو میری محبت میں افراط کرے گا اور جو کچھ مجھ میں نہیں میرے لیے ثابت کرے گا اور دوسرا وہ شخص جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا اور عداوت میں مجھ پر بہتان لگائے گا پس خارجیوں کا حال یہودیوں کے حال کے موافق ہے اور رافضیوں کا حال نصاریٰ کے حال کے موافق کہ دونوں وسط حق سے برطرف جا پڑے ہیں وہ شخص بہت ہی جاہل ہے جو اہل سنت و الجماعت کو حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے خمبین میں سے نہیں جانتا حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کی محبت رخص نہیں ہے امام شافعیؒ مطلبی فرماتے ہیں۔

لَوْ كَانَ رَفُضًا حَبَّ آلِ مُحَمَّدٍ

فَلَيْشَهْدَ النَّفْلِينَ أُنَى رَافِضٍ

اگر آل محمد ﷺ سے محبت رخص ہے تو انس و جن کو اہر ہیں کہ میں رافضی ہوں

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت پیش آ کر رہی۔ جیسا کہ زبان رسالت نے پیش کوئی فرمائی تھی۔ یہی افراط و تفریط والی صورت حال آپ کے بعد آپ کی اولاد اظہار کے بارے میں بھی پیش آتی رہی۔ چنانچہ ان افراط و تفریط کے شکار لوگوں کے فکری فتنہ بازیوں اور چیرہ دستیوں نے اہل بیت اظہار

اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دو انتہاؤں کے طور پر پیش کیا۔ حالانکہ قرآن مقدس زبان رسالت ارشادات صحابہ اور کردار صحابہ اور خود اکابر اہل بیت کے ارشادات ان کے ان مضمومہ باطل خیالات کی صراحت نفی کرتے ہوئے ان کو آپس میں محبت و محبوب امام و مقتدی امیر و مشیر اور انتہائی قریبی رشتہ دار بتلاتے ہیں۔

آنے والی سطور میں بیان کیا جائے گا کہ سواد اعظم اہلسنت کے عقیدہ کے مطابق صحابہ و اہلبیت یکجان و دو قالب ہیں۔ حضور کی جائز جماعت ان دونوں سے مکمل ہوتی ہے ان کے درمیان نہایت ہی مضبوط تعلقات قائم رہے اور ان کے دل ایک دوسرے کی محبت و عقیدت سے معمور رہتے تھے جن کے شواہد لاتعداد ہیں بالخصوص اہل بیت کا وہ مقام جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ چند نمونے پیش کیے جائیں گے۔ اس معنی برحق معتدل عقیدے کی خاطر جب بارہ وقت کے ہاتھوں شہید ہونے والے اولوالعزم شخصیت استقامت کے پہاڑ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ شہید اہل بیت کو پیش آمدہ مصائب اور ان کے اسباب کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ لوگوں کو اعلائے کلمۃ الحق کی قدر قیمت معلوم ہو سکے اور ان کے اندر بھی وہ جذبہ بیدار ہو جائے جس جذبے نے امام اعظم کیلئے بنو امیہ اور بنو عباس کے جاہل حکمرانوں کے کوڑے پھول اور زہر ہلاہل قند شیریں محسوس ہوتا تھا۔

اللہم وفقنا لما نحب وترضی

تحقیق آل و اہل:

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں حضور کے گھرانے اور اولاد کے لیے پانچ الفاظ آل اہل بیت ذوی القربیٰ عمرۃ ذریۃ خصوصیت سے استعمال ہوئے ان میں سے آل اور اہل بیت بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ محققین لغت کے نزدیک آل بھی اہل سے منقلب ہو کر بنا ہے اور بعض آل کے اصل کو اول قرار دیتے ہیں لفظ آل شرافت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور معرفہ کے طرف مضاف ہوتا ہے اور اہل نکرہ کے طرف مضاف ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء تصنیف معارف الحدیث میں ”درد شریف میں لفظ آل کا مطلب“ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔

اس درد شریف (درد امیر اہلبیتی) میں ”آل“ کا لفظ چار دفعہ آیا ہے۔ ہم نے اس کا

ترجمہ گھرانے والوں کا کیا ہے عربی زبان اور خاص کر قرآن و حدیث کے استعمالات میں کسی شخص کی ”آل“ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہوں۔ خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو جیسے ان کے بیوی بچے یا رفاقت اور عقیدت و محبت اور اتباع کا جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور مخبرین، قبیعین اس لیے نفس نفیس کے لحاظ سے یہاں آل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی نمبر پر اسی مضمون کی حضرت ابو حمید الساعدی کی جو حدیث درج کی جا رہی ہے اس میں درود شریف کے جو الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ”آل“ سے ”گھرانے والے“ مراد ہیں یعنی آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ ﷺ کی نسل و اولاد، اور جس طرح ان کو رسول اللہ کے ساتھ خصوصی قرابت و جزئیت اور زندگی میں شرکت کا خاص شرف حاصل ہے (جو دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے اگرچہ وہ درجہ میں ان سے افضل ہوں) اسی طرح یہ بھی ان کا ایک مخصوص شرف ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان پر بھی درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ازواج مطہرات وغیرہ جو لفظ ”آل“ کے مصداق ہیں امت میں سب سے افضل ہوں۔ عند اللہ فضیلت کا مدار ایمان اور ایمان والے اعمال اور ایمانی کیفیت پر ہے جس کا جامع عنوان تقویٰ ہے۔ **بِإِن أكرمكم عند الله أتقاكم** اس کو بالکل یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس دنیا میں بھی جب کوئی مخلص محب اپنے کسی محبوب بزرگ کی خدمت میں کوئی خاص مرغوب تحفہ اور سوغات پیش کرتا ہے تو اس کے پیش نظر خود وہ بزرگ اور ان کے ذاتی تعلق کے بنا پر ان کے گھر والے ہوتے ہیں اور اس مخلص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ تحفہ ان بزرگ کے ساتھ ان کے گھر والے یعنی اہل و عیال بھی استعمال کریں۔ کسی کے ساتھ تعلق و صحبت کا دراصل یہ فطری تقاضا ہے۔ درود شریف بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک تحفہ اور

سونا ہے۔ اس میں آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاص متعلقین یعنی اہل و عیال کو بھی شریک کرنا بلاشبہ آپ ﷺ کی محبت کا تقاضا ہے اور اس سے آپ ﷺ کے قلب مبارک کا بہت زیادہ خوش ہونا بھی ایک فطری بات ہے۔ اس کی بنیاد پر افضلیت اور مفضولیت کی کلامی بحث کرنا کوئی خوش ذوقی کی بات نہیں ہے۔ بہر حال اس عاجز کے نزدیک راجح یہی ہے کہ درود شریف میں آل محمد ﷺ سے آپ کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات اور ذریت مراد ہے اور اسی طرح سے آل ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے گھر والے! قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے **رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد** بلاشبہ آل ابراہیم وہی ہیں جن کو اس آیت میں اہل البيت فرمایا گیا ہے۔

آل و اہل کے مصداق

محققین میں آل و اہل سے مراد و مصداق میں علمی اختلاف ہوا ہے لیکن جمہور محققین و محدثین و فقہاء کے نزدیک حضور ﷺ کے آل اور اہل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کا شامل ہونا متفق علیہ ہے۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”بعد اللتبا والنتی قد اتفق جمہور العلماء من السلف والخلف علی دخول اولاد الفاطمة رضی اللہ عنہا و اولاد اولادھا و ان سفلوا فی ذرینۃ النبی و ابنائہ و لاعبرۃ بما حکى من انکار بعض بنی أمیۃ و ولا تہم عن ذالک و جمہور العلماء ینتمسکون فی ذالک بکتاب اللہ و سنۃ رسول اللہ ﷺ باقوال السلف فی هذا الموضوع۔“

یعنی تحقیق و تفحص کے بعد جمہور علماء قدیم و جدید سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولادیں جتنی بھی نسل پھیل جائے وہ سب حضور ﷺ کی ذریت اور اولاد میں سے ہیں اور اس باب

میں بعض بنو امیہ اور ان کے حکمرانوں کی رائے اور خیالات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور جمہور کیلئے قرآن و سنت میں ہزاروں دلائل دستیاب ہیں۔ مسند احمد میں ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ کی روایت موجود ہے فرماتی ہیں۔

”أقبلت فاطمة تمشی كانت مشيتها مشية رسول الله ﷺ فقال مرحباً بابنتي ثم أحلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أنه أسر إليها حديثاً فبكيت فقلت لها استخضك رسول الله ﷺ حديثه ثم تبكين ثم أنه أسر إليها حديثاً فضحكك فقلت ما رأيت كما ليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله ﷺ حتى إذا قبض النبي ﷺ سألتها فقالت أنه أسرا إلي فقال إن جبرائيل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة و أنه عارضني به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أحلى و إنك أول أهل بيتي لحوقابي و نعم السلف أنا لك فبكيت لذلك ثم قال الا ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الأمة انساء المومنين قالت فضحكك لذلك“

ترمذی میں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے بھی یہ روایت مروی ہے اور مستدرک حاکم میں حضرت بریدہ سے مروی ہے۔

ان روایات میں جو باتیں واضح ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ حضرت فاطمہ کا انداز تکلم اور چلنا بالکل حضور ﷺ کی طرح تھا۔
- ۲۔ حضور اکرم ﷺ کو حضرت فاطمہ سے نہایت قلبی تعلق تھا اس لیے کھڑے ہو کر اور والہانہ انداز و الفاظ سے استقبال کرتے تھے۔
- ۳۔ اپنی بارے میں اس ام راز کو صرف آپ پر ہی اختیار فرمایا۔
- ۴۔ اور آپ کو اپنے اہل میں سے فرمایا اور سب سے پہلے آپ سے آمنے کی اطلاع دی اور جہان بھر کی عورتوں کی سردار فرمایا۔

اولاد علی اولاد رسول ہے

جب آیت مبارکہ ”تعالوا ندع أبناثنا و أبناثکم“ نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے حضرت فاطمہؓ اور ان کے دونوں بیٹوں حضرت حسنؓ و حضرت حسینؓ کو بلایا اور ساتھ لے کر مبارکہ کو نکلے۔ بخاری شریف میں مروی حدیث شریف جس میں حضور ﷺ نے حضرت حسنؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ”ان ابنی هذا سید“ اس میں آنحضرت ﷺ نے حضرت حسنؓ کو اپنا بیٹا فرمایا۔

معجم طبرانی میں حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع روایت ہے کہ

”کل بنی أنتی فان عصبتهم لأبیهم ما خلا ولد فاطمة فانی أنا عصبتهم
و أنا أبوهم۔“

حدیث مبارکہ میں حضور اکرمؐ نے خود کو حضرت فاطمہؓ کی اولاد کا عصبہ اور والد کہا ہے۔

کتب حدیث میں آنحضرت ﷺ سے یہ ارشاد بھی منقول ہے جو آپ نے حضرات حسنینؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”کہ اولادنا اکبادنا“ ہماری یہ اولاد ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔

خود حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں حضرت حسنؓ جنگ میں فطری بہادری کے سبب بڑھ بڑھ جاتے تھے تو حضرت علیؓ لوگوں سے فرماتے کہ اس لڑکے کو روکو کہیں یہ شہید ہو گیا تو حضورؐ کی نسل ہی منقطع ہو جائے گی۔

امام یحییٰ کی جرأت اور قوت استدلال:

امام الکلام فخر الدین رازئی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں یہ عبرت آموز واقعہ لکھا ہے۔

”امام شعیبی فرماتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ مشہور تابعی

فقہ و امام ابو جعفر یحییٰ بن یحییٰ خراسانی کو بیزیوں میں پابجولان لایا گیا۔ حجاج نے امام

صاحب سے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ حسن اور حسینؑ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہیں تو امام نے فرمایا ہاں۔ حجاج نے پھر کہا کہ تو کتاب اللہ سے اپنے دعویٰ پر واضح دلیل پیش کر ورنہ تمہارے ایک ایک عضو کو کاٹا جائے گا تو امام نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے واضح اور بین دلیل دوں گا اے حجاج۔ امام شیعہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی جرأت پر حیران ہوں جب انہوں نے حجاج کو اے حجاج کہہ کر مخاطب کیا۔ حجاج نے کہا لیکن آپ یہ آیت ”تعالوا ندع اٰبائنا“ پیش نہ کریں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ سے اس سے بھی واضح دلیل لاؤں گا اور وہ یہ آیت ہے۔ ”ونوحاً هدينا من قبل و من زرينه داؤد و سليمان۔ وذكوريا و يحيى و عيسى الایة“ پس عیسیٰ کے والد کون ہیں جب کہ اللہ نے ان کو حضرت نوح کی اولاد میں سے قرار دیا۔ امام شیعہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے اس جواب پر حجاج شرمندگی سے پسینے میں شرابور ہو گیا پھر سر اٹھایا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے گویا میں نے یہ آیت کبھی نہیں پڑھی پھر حکم دیا کہ ان کی بیزیاں کھول دیں۔

مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیرؓ بھی حجاج اور بنو امیہ کے مظالم کا شکار ہو کر شہید ہوئے سب یہی تھا کہ ان کی عقیدتیں آل رسول ﷺ کے ساتھ تھیں جیسا کہ آیت مودة القربى کی تفسیر میں ان کے طبعی میلان کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کی حاضر جوابی وقوت استدلال

محدث ابن حجر ہیتمیؒ کی صواعق محرقہ میں رقمطراز ہیں

کہ ہارون الرشید نے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے پوچھا کہ آپ کس طرح خود کو حضور ﷺ کی اولاد کہتے ہیں جبکہ تم علیؑ کی اولاد ہو تو حضرت موسیٰ کاظمؑ نے بھی ہارون الرشید کے سامنے یہ آیت ”ونوحاً هدينا“ الی عیسیٰ تلاوت کی کہ جب قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰؑ بغیر باپ کے حضرت نوح کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو اولاد فاطمہؑ کیوں

حضور کی اولاد نہیں ہو سکتی۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن و حسینؑ حضور کی اولاد ہیں۔

خطیب بغدادی نے یہ واقعہ اپنی تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے

کہ ہارون الرشید حج کے لیے گیا اور حضور اکرم ﷺ کے روضہ اقدس پر سلام کیلئے حاضر ہوا اور اس کے ساتھ اشراف قریش اور مختلف سرداران قبائل بھی تھے حضرت موسیٰ کاظمؑ بھی تھے ہارون الرشید نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیک یا رسول اللہ ابن عمی۔ دوسروں کے سامنے فخر کے لیے حضور کو پچا زاد کہا تو حضرت موسیٰ کاظمؑ نے سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت تجھ پر سلام ہوا میرے والد ہارون رشید کا چہرہ یہ سن کر فق ہو گیا اور کہا یہ بے فخر کی بات اے ابوالحسن آپ نے سچ کہا۔

آل وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے

امام شامی رد المحتار میں و علی اللہ و صحبہ کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

إختلف في المراد بالآل في مثل هذا الموضع فالأكثر على أنهم قرابة النبي الذين حرمت عليهم الصدقة ۲۔

حضرت امام یزید بن حیان تابعی سے حضرت زید بن ارقمؓ والی روایت میں ہے کہ حضرت زیدؓ سے روایت حدیث کے بعد سوال کیا گیا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں کیا امہات المؤمنین اہل بیت میں ہیں۔ حضرت حسینؑ (سائل) کے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے پھر سوال کیا گیا کہ کن پر صدقہ حرام ہے تو فرمایا کہ اولاد علیؑ

اولاد عقیلؑ اولاد جعفرؑ اولاد عباسؑ اور حضور اکرم ﷺ کا ارشاد پاک جو آپ نے حضرت
حسن کا صدقہ کی ایک کھجور کو منہ میں ڈالنے پر اٹکی ڈال کر کھجور کو نکالا اور فرمایا کہ
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

ہم آل محمد کے لئے صدقہ حرام ہے

اس حدیث سے جہاں حضرات حسنینؑ کا آل رسول ﷺ ہونا بیان ہوا وہاں ان پر صدقہ حرام ہونا بھی واضح
ہوا لہذا حضرات حسنینؑ کے آل رسول ﷺ میں سے ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔
حضرت زیدؑ والی حدیث و دیگر احادیث کی روشنی میں امام ابوحنیفہؒ امام مالکؒ امام احمدؒ اور حضرت عمر بن
عبدالعزیزؒ کے نزدیک صدقہ صرف نبی ہاشم پر حرام ہے۔

امام شامی فرماتے ہیں کہ

یہ حکم صرف ان کے اعزاز اور تکریم کے لئے ہے۔ اور اس اعزاز میں اہل بیتؑ اور
بنو ہاشم کے نیک اور غیر نیک سب شامل ہیں صدقہ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے
جیسا کہ حضور ﷺ نے اسے اوساخ اموال الناس قرار دیا یہ خاندان نبوت کی کرامت
کے لئے حرام کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ سادات عموماً نیک باطن ہوتے ہیں تزکیہ و احسان
کے اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہوتے ہیں کیونکہ بزبان قرآن انکی اللہ نے تطہیر ظاہری و
باطنی فرمائی ہے۔

قیامت کو قربت نبوی:

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ

اہل بیت کرام کو حضور ﷺ کے ساتھ پانچ چیزوں میں ساتھ ساتھ اور برابر رکھا ہے
(1) محبت (2) صدقہ لینے پر حرمت (3) تطہیر، ظاہری باطنی و معنوی پاکیزگی (4)
سلام (5) درود میں۔

گویا کہ درود میں جب حضور ﷺ کا نام مبارک لیا جائے گا تو حضور ﷺ کے ساتھ آپ کی اولاد اور اہل بیتؑ بھی مذکور ہوں گے۔ درود شریف کے جتنے الفاظ اور صیغے کتابوں میں محدثین نے جمع کئے ہیں ان سب میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ کی آل کا ذکر خیر ہوتا ہے اور محبت و عقیدت سے دل نہال ہو جاتے ہیں۔ اسی سے ان کی سعادت مندی اور رفعت شان کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ

أولى الناس بي (يوم القيامة) أكثرهم عليّ صلاةً

قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا گویا کہ قیامت میں حضور ﷺ کی قربت کے لئے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی آل پر درود بھیجنا ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میرے اہل بیتؑ کے لئے تکلیف برداشت کریگا قیامت کے دن میں اس کا کفیل اور وکیل ہونگا۔

مقبول نماز کونسی ہے:

دارقطنی اور بیہقی میں حضرت مسعود الانصاریؓ کی یہ حدیث درج ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا

من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ و عليّ اهل بيتي لم تقبل منه
 ”جس نے بھی کوئی نماز پڑھی لیکن نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیتؑ پر درود نہیں بھیجا
 اس کی نماز قبول نہیں ہوگی“

حضرت جابرؓ اور حضرت عبداللہؓ اور دارقطنی کے مطابق امام محمد بن علی الباقرؑ تینوں کا منقوف ارشاد ہے کہ
 ”جو کوئی نماز میں حضور اور ان کی آل پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی“
 کسی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے بعض نے اس شعر کی نسبت حضرت امام شافعیؒ کی طرف کی ہے۔

يا اهل بيت رسول حباكم فرض من الله في القرآن انزله
 كفاكموا من عظيم القدر انكم من لم يصل عليكم لا صلاة له

ترجمہ:

اے اہل بیتؑ رسول ﷺ آپ حضرات کی محبت اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں

فرض کی گئی ہے۔ آپ کی قدر و منزلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ حضرات پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔

درود کیسے پڑھیں:

درود شریف کے صحیفے بھی رسالت مآب ﷺ نے خود سکھائے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہؓ نے اپنے شاگرد حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں جو میں نے حضور ﷺ سے سنا۔ پھر درود شریف کا صحیفہ بتلایا جو آپ کو خود حضور اکرم ﷺ نے سکھایا تھا۔

امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو حمید الساعدیؓ سے یہ روایت نقل کی ہے جس میں فرماتے

ہیں کہ

ہم نے رسول ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول ﷺ ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں پس حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔

اسی طرح سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيات الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل "اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔"

ترجمہ:

جو کوئی چاہے کہ اس کے اعمال کا وزن پورا پورا کیا جائے تو ہم پر اس طرح درود پڑھیں

"اے اللہ درود بھیج نبی محمد ﷺ پر اور انکی گھروالیوں پر جو کہ مومنین کی مائیں ہیں اور ان

کی اولاد اور اہل بیتؑ پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیمؑ پر بے شک تو تعریف
والا اور بزرگی والا ہے۔

حاجات کے لئے اکسیر:

امام دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام
جعفر الصادقؑ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔

من صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی أهل بیتہ مائة مرة
قضی اللہ له مائة حاجة

ترجمہ:

جو کوئی حضور اکرم ﷺ اور ان کی اہل بیت پر ایک سو مرتبہ درود پڑھے گا۔ اللہ اس کی سو
حاجات پوری کریں گے۔

اسی مفہوم کی حدیث سنن بیہقی میں حضرت جابر سے بھی مروی ہے۔

اہل سنت کے ہاں درود شریف کا جو اہتمام ہے اور نمازوں کے علاوہ الحمد للہ ہزاروں لاکھوں کی تسبیحات
درود پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ درود کے بغیر دعا و نماز قبول نہیں ہوتی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے
دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے یہ تو بالکل ماورائے عقل بات ہے

سبحانک هذا بهتان عظیم

لحاظ رشتہ:

ارشاد خداوندی ہے کہ

قل لا استلکم علیہ اجر اِلا المودة فی القربی (الایة)

حبر الامتہ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ اس
آیت میں کونسی قرابت مراد ہے۔ مجلس میں شہید اہل بیت حضرت سعید بن جبیرؓ بھی

تشریف فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے آل محمد ﷺ کی قرابت مراد ہے تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آپ نے جلدی کی حضور اکرم ﷺ کو تمام قریش سے قرابت تھی۔ ۱

یہاں پر کم فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دونوں حضرات کی تفسیر میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ جب پورے قریش کی قرابت کا لحاظ مراد ہے تو جو حضور کے بہت ہی قریبی ہیں مثلاً آپ کی اولاد و نواسے وہ بدرجہ اولیٰ مراد ہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لحاظ قرابت کے حقدار ہیں۔ جیسا کہ خود حضور اکرم ﷺ سے اس آیت کی تشریح میں ارشاد پاک منقول ہے کہ

إِلَّا تَصِلُوا قُرَابَتِي مِنْكُمْ

میری قرابت کا لحاظ کرو (قرابت جتنی زیادہ ہوگی اسی حساب سے لحاظ رکھا جانا چاہئے)

حافظ سخاوی نے استجلاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے بھی حضرت سعید بن جبیرؓ کے موافق روایت

ملتی ہے۔

تفسیر مودۃ القربی:

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ آیت مودۃ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امام بغوی نے امام شعمی کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ تم میری قرابت کا لحاظ کرو مجھ سے (حسب تقاضا قرابت) مودت کرو اور میرے رشتہ قرابت کو جوڑے رکھو۔ امام مجاہد، کرم، مقاتل، سعدی اور ضحاک نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔

امام بغوی مودۃ القربی کی آیت کی کلی منسوخی سے موافق قول کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”یہ قول ناپسندیدہ ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے محبت اور ہر دکھ کو حضور ﷺ سے دور کرنا اور آپ کے اقارب سے محبت کرنا دینی فرائض میں سے ہے۔“

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنا عقیدہ (جو کہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے) بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 ”میں کہتا ہوں اس میں شک نہیں کہ رسول ﷺ سے اور آپ کے اقارب سے محبت تو
 فرض محکم ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رسول ﷺ کے لئے اجرت جلی
 کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہو“

آگے فرماتے ہیں کہ

”مودت کو تبلیغ کا اجر قرار دینا حقیقی نہیں مجازی ہے اجرت جیسی شکل ہونے کی وجہ سے
 مودت کو اجر کہا گیا ہے کیونکہ حقیقی اجرت تو وہ ہوتی ہے جو اجرت کے طلبگار کے لئے
 مفید ہو اور وہ خود اس سے فائدہ اندوز ہو سکے۔ رسول اللہ ﷺ سے محبت سے اس کو کمال
 ایمان کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے ہمارے نزدیک آیت مذکورہ میں مودۃ القربی کی
 یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ میں تم سے بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اقرباء میرے اہل بیت
 اور میری اولاد سے محبت کرو۔“

سلاسل تصوف کا سرخیل و سرچشمہ اہل بیت ہیں:

حضرت پانی پتی لکھتے ہیں

رسول اللہ ﷺ تو آخری نبی تھے آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہ تھا آپ کے بعد فرض
 تبلیغ کو ادا کر نیوالے علماء امت ہی ہیں علماء ظاہر ہوں یا علماء باطن (فقہاء محدثین/ائمہ
 تصوف) اللہ نے اپنے نبی کو اسی لئے حکم دیا ہے کہ آپ امت کو اپنے اہل بیت سے
 محبت رکھنے کی تبلیغ کریں کیونکہ امام المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ائمہ اہل بیت جو
 آپ کی نسل میں سے ہوئے کمالات ولایت کے قطب تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ
 ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر (میں داخل ہونے کا) دروازہ
 ہیں۔ طبرانی اور بزاز نے حضرت جابرؓ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس روایت

کی تائیدی شواہد وہ حدیثیں بھی ہیں جن کے راوی حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ ہیں حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہی باعث ہے کہ اکثر مشائخ کے سلسلے اہل بیت تک پہنچتے ہیں۔ سادات کرام میں بہت کثرت سے اولیاء ہوئے ہیں جیسے غوث الثقلین محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی و حسینیؒ اور شیخ بہاؤ الدین نقشبندؒ اور سید مودود چشتیؒ اور سید ابوالحسن شاذلیؒ (حضرت سید معین الدین چشتی اجمیریؒ، حضرت شاہ ہمدانؒ، حضرت سید خواجہ گیسو درازؒ، سید محمد احمد بدایونی دہلوی المعروف سلطان اولیاءؒ، سید نصیر الدین محمود بن یحییٰ اودھی المعروف چراغ دہلی، سید اشرف بن ابراہیم جہانگیر سمنانیؒ، سید آدم بنوریؒ، سید احمد شہیدؒ، سید احمد شریف السنوسی از مولف) وغیرہ یہی مراد ہے حدیث مبارک

إني نارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كي

اکثر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ "إلا المودة في القربى" میں استثناء منقطع ہے اور (الا کا معنی لیکن ہے) اجر اپنے حقیقی معنی پر ہے مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی معاوضہ کا بالکل طلب گار نہیں ہوں لیکن میری قرابت جو تم سے ہے اس کی طرف متوجہ کرانا ہوں اور مودت قرابت چاہتا ہوں حضرت زید بن ارقمؓ کی روایت کردہ حدیث

أذكركم الله في أهل بيتي

میں اسی مطلب کا اظہار کیا گیا ہے۔

آگے فرماتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے جو اپنی اور اپنے اہل بیت کی محبت رکھنے کا حکم امت کو دیا ہے۔

تا کہ امت کو فائدہ پہنچے اس کی تائید آئندہ آیت سے ہو رہی ہے۔ فرمایا ہے۔

ومن يترف حسنة نؤدله فيها حسنا (القرآن)

اور جو شخص کوئی نیکی کریگا ہم اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے حسنہ سے مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے آل اور تابعوں کی محبت ہے ورنہ سابق عبارت اور اس جملہ میں کوئی ربط نہ ہوگا۔ البتہ لفظ حسنہ عام ہے ہر نیکی کو شامل ہے اللہ حسنہ میں اور خوبی بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول یعنی مشائخ طریقت سے محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت رسول ﷺ کی ترقی سے محبت خدا میں مزید اضافہ ہوتا ہے اسی لئے مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفی کو پہلے فنا الشیخ کا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر فنا فی الرسول کا اور آخر میں فنا فی اللہ کا۔ فنا سے مراد ایسی شدت محبت کہ محبوب کی یاد کے وقت نہ اپنا پتہ رہے نہ کسی دوسرے کا سوائے محبوب کے ہر نشان مٹ جائے۔

احسان کا بدلہ:

آیت مودت مکہ میں نازل ہوئی اس کے اولین مخاطب مشرکین تھے جو کہ حضور ﷺ کی دعوت پر کان نہ دھرتے تھے پھر بھی حضور ﷺ کے احسان تبلیغ اسلام پر ان سے قرابت کی لحاظ داری کا مطالبہ ہے تو وہ لوگ جو کہ امت ایجابی ہیں اور جنہوں نے حضور سرور کائنات ﷺ کی وساطت سے اسلام اور ایمان جیسی نعمت عظمیٰ سے دامن بھر لئے ان کے لئے تو بدرجہ اولیٰ قرابت کا لحاظ چاہئے۔ اہل جزاء الاحسان اِلاّ الاحسان۔

اہل بیت عظام، اہل سنت والجماعت کا نکتہ نظر:

اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بنیادی نظر یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ اور اہل بیت دونوں پر اس طرح ایمان رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام حضور ﷺ کی صحبت کی وجہ سے اگلی پچھلی امتوں میں افضل ترین اور اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں۔ اور اہل بیت حضور ﷺ کے گھر والے اور اولاد ہونے کے ناطے ہمیں اپنے نفس اور اپنے اولاد سے زیادہ محبوب ہیں اور ان سے محبت و عقیدت سلیمہ کو جزو ایمان تصور کرتے ہیں۔

شراح فقہ الاکبر ماملی قاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ الاکبر (امام اعظم کی عقائد کے متعلق تصنیف ہے) کے شرح میں اہل سنت کا موقف تحریر کرتے ہیں۔

وكان السلف، جعلوا من علامات السنة و الجماعة تفضيل الشيخين
ومحبة الحسنين. ۱۔

اکابرین امت کے ہاں اہل سنت و الجماعت کی علامات میں سے حضرات شیخین
ابوبکرؓ و عمرؓ کی فضیلت اور حضرات حسینؓ و حسینؓ کی محبت ہے:

امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ

”ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من
كل دنس وزرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق“

ترجمہ:

جو کوئی صحابہ کرامؓ ازواج مطہراتؓ اور زریزیت مقدسہ کے بارے میں عیب و برائی کی
بجائے اچھی بات کہتا ہے وہ نفاق سے بری ہے

معلوم ہوا کہ ان دونوں میں کسی ایک کی برائی کریں یا دل میں خیال رکھیں وہ منافق ہے۔

حضور کی اپنی اولاد کے بارے میں وصیت:

امام طحاوی کے متن کی شرح میں امام ابن ابی العزرائی رقمطراز ہیں کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت زید بن
ارقمؓ سے روایت ہے کہ:

قام فينا رسول الله صلى عليه وسلم خطيبا بما يدعى خما بين مكة و
المدينة فقال أما بعد ألا يا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتي
رسول ربى فأحيب وانا تارك فيكم الثقلين. أولهما كتاب الله فيه
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله
ورغب فيه ثم قال واهل بيتى أذكركم الله فى اهل بيتى ثلاثاً

ترجمہ:

حضور اکرم ﷺ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے خم نامی پانی کے پاس جو کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے پس آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو اے لوگو کہ میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ خدا کا فرستادہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں (یعنی موت کا جام پیوں) میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی کتاب اللہ (قرآن) ہے اس میں ہدایت اور روشنی ہے پس خدا کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے تھامو آپ نے اس کے لئے ابھارا اور ترغیب دی پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں بھلائی کی تاکید کرتا ہوں یہ تین دفعہ دہرایا۔

مستدرک حاکم میں ہی حضرت زیدؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہیں۔

إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل
وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي
الحوض

یہ روایت جابر بن عبد اللہ اور کئی دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے خود اہل بیت عظام کی سند عالیہ سلسلہ الذہب سے بھی یہ حدیث مروی ہے چنانچہ امام دولابی الذریۃ الظاہرہ اور امام دعائی نے الطالبتین میں اور انہیں سے حافظ سخاوی نے الاستحلاب میں نقل کیا ہے کہ

من حدیث عبد اللہ بن موسیٰ عن أبيه عن عبد الله بن حسن عن أبيه
عن جده عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم قال
إني مخلف ما إن تمسكنم به لن تضلوا كتاب الله عز وجل طرفه بيد الله
طرفه بأيديكم وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

جامع ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاریؓ کی وہ مشہور روایت بھی ہے جو آپ نے کعبہ کے دروازے کی زنجیر

پکڑ کر اعلان کر کے بیان کی کہ

سمعت رسول الله صلى الله وسلم انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله
وعترونى فإنيهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني
فيهما

مسند بزاز میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں عنترتی کی جگہ نسبی لکھا ہوا ہے۔

جو ظاہری و باطنی لحاظ سے پاک ہیں:

حضرت امام مسلم نے صحیح میں فضائل اہل بیت کے باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی

ہے کہ

خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر
أسود فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله ثم جاء الحسين رضي
الله عنه فأدخله ثم جاء فاطمة رضي الله عنها فأدخلها ثم جاء علي
فأدخله ثم قال "انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا"

یہی روایت اور کئی صحابہ کرام سے بھی مروی ہے اور ان میں سے بعض میں حدیث کا یہ جملہ بھی درج ہے۔

اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق

یہ واقعہ آیت مباہلہ کے نزول کے بعد پیش آیا۔ جس میں حضور ﷺ نے حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ حضرات

حسینؓ کو چادر کے نیچے ڈال کر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو پاک فرما۔

حافظ سخاوی نے استجلاب میں اور ابن حجر قسیمی نے مجمع الزوائد میں اور امام طبرانی نے معجم میں یہ روایت نقل

کی ہے۔

عن أبي جميلة أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أستخلف حين
قتل علي رضي الله عنه قال فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل وطعنه

بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من نبي أسد و حسن
ساحد، فقال يا اهل العراق اتقوا الله فينا فانا أمرناكم وضيقتكم و نحن
أهل بيت الذي قال الله عزوجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت و يطهركم تطهيراً قال فما زال يقولها حتى بقي أحد من
أهل المسجد إلا وهو يحن بكاءً.

یعنی حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت حسنؑ خلیفہ منتخب کئے گئے ایک دفعہ نماز کے
دوران جب حضرت حسنؑ سجدہ میں تھے بنواسد کے ایک شخص نے آپؑ پر خنجر کا وار کیا تو
آپؑ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے اہل عراق ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو
ہم تمہارے امیر اور مہمان ہیں اور ہم ان اہل بیتؑ میں سے ہیں جن کی پائیزی کا
اعلان قرآن میں کیا ہے۔ انہما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس
آیت فرماتے یہاں تک تمام مسجد والے اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔

روایت میں ہے کہ حضرت زین العابدینؑ کے ساتھ شام میں کسی نے درش خوبی کی اس پر آپؑ نے اس سے
پوچھا کیا تم نے سورہ احزاب کی یہ آیت نہیں پڑھی اور آیت تطہیر پڑھ دی اور فرمایا اس آیت سے مراد ہم ہی ہیں۔

اہل بیت کی تعظیم شعائر اللہ کی تعظیم ہے:

مشہور محدث و نقیبہ حضرت امام نووی الشافعیؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب حدیث ریاض الصالحین میں ایک باب
اکرام اہل بیت رسول اللہ و بیان فضلیہم کے عنوان سے قائم کیا ہے جس میں دو آیات لائے ہیں۔ پہلا
إنما یرید اللہ الایة یعنی آیت تطہیر۔ دوسری آیت سورہ حج سے لائے ہیں۔

ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب (۲)

ترجمہ:

اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔

اس طرح امام نووی جیسے جلیل القدر محدث و فقیہ کے انتخاب و استشہاد سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اہل بیت عظام بھی شعائر اللہ ہیں جن کی تعظیم ہر مومن پر فرض ہے کیونکہ شعائر کی تعظیم حقیقت میں اللہ ہی کی تعظیم ہے۔

مسئلہ حقہ:

شیخ الاسلام ابن تیمیہ عقیدۃ واسطیہ میں فرماتے ہیں کہ:

و یحبون یعنی اهل السنة اهل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و بنو لؤنہم و یحفظون فیہم و صیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حیث قال یوم غدیر خم اذ کریم اللہ فی اهل بیتی: (۱)

ترجمہ:

اہل سنت و الجماعت اہل بیت نبوی ﷺ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے تعلق و
دوستی رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کی وصیت مبارک کی پاس و
محافظت کرتے ہیں جو کہ آپ نے غدیر خم کے مقام پر اپنی امت کو فرمایا کہ میں تمہیں
اپنے اہل بیت کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں آگے لکھتے ہیں:

وقال ایضاً للعباس عمہ اشکی الیہ أن بعض قریش یجفوا بنی
ہاشم۔ فقال۔ والذی نفسی بیدہ لا یومنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی
رواہ احمد۔

ترجمہ:

حضرت عباس عم رسول ﷺ نے آپ ﷺ سے بعض قریش کی بے رخی کی شکایت کی تو
آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی اس وقت
تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے محبت نہ کریں اللہ کے لئے اور میرے رشتہ
کے لحاظ میں۔

ذیل کتاب میں شارح عقیدہ واسطیہ لکھتے ہیں کہ۔ اہل بیت سے اس حدیث میں مراد حضور اکرم ﷺ کے وہ رشتہ دار و اولاد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ آل علی آل عقیل آل جعفر آل عباس اور بنو الحارث بن عبدالمطلب اور حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں آپ کے اہل بیت ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔

إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

احزاب ۲۳

آگے فرماتے ہیں۔

فَأَهْلَ السَّانَةِ يَحِبُّوهُمُ وَيَكْرَهُونَهُمْ لِأَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ إِحْتِرَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِكْرَامِهِ وَلَٰنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدَّامِرٌ بِذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (۱)

”یعنی اہل سنت والجماعت کثر اللہ سوا دھم اہل بیت عظام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تکریم بجالاتے ہیں کیونکہ ان سے محبت اور انکا اکرام اللہ کے رسول سے محبت و اکرام کے مانند ہے اور اللہ اور رسول اکرم دونوں نے اس کا حکم دیا ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا لیکن میری قرابت کا لحاظ اور ان سے محبت۔“

مَوَدَّةُ الْقُرْبَىٰ كَمَا مَصْدَق:

حافظ ابن کثیر اپنے شہرہ آفاق تفسیر میں اور امام طبری اپنی تفسیر میں اور حافظ سخاوی الاستحلاب میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ:

”جب حضرت زین العابدینؑ کو دیر اہل بیت کے ساتھ پاجو لیاں کر بلا سے دُشِق لایا گیا تو دُشِق میں ہی ایک شامی نے کھڑے ہو کر ان کے سامنے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہاری استیصال کر دی اور فتنہ کی سینگ کاٹ دی تو حضرت

زین العابدینؑ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے شامی نے جواب دیا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے حضرت زین العابدینؑ نے پھر فرمایا کیا تو نے آل حم پڑھا ہے۔ شامی نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور آل حم نہیں پڑھا حضرت زین العابدینؑ نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت

قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى

نہیں پڑھی۔ تو شامی نے کہا کہ کیا اس آیت کا مصداق آپ ہی ہیں آپ نے جواب دیا ہاں۔

حافظ سخاوی اور امام دو الابی دونوں نے اہل بیت ہی کی سند سے حضرت حسن کا ارشاد نقل کیا ہے۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیشک ہم اہل بیت میں سے ہیں جن سے محبت اور مودۃ اللہ نے ہر مسلم پر فرض کر دی ہے پس اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى و من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا۔

پس اقرار الحسنہ سے مراد اہل بیت سے محبت و مودت ہے۔

محبت اہل بیت تکمیل ایمان:

شارح عقیدہ واسطیہ لکھتے ہیں کہ

”حضور ﷺ کا ارشاد اپنے چچا عباسؓ سے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہیں مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ سے محبت کریں اللہ کے لئے اور میری قرابت کے وجہ سے“

پس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ حضور کے اہل

۱۔ تفسیر الطبری ۱۴۴/۱ الامتجلاب ۵۹ الذریۃ اظہرہ للذوالابی ۳۷ تفسیر ابن کثیر ۴/۱۳۳

۲۔ مسند احمد ۲۴۴ السنن کرمذی ۲۱۰

بیت سے محبت نہ رکھے پہلا سبب محبت کا اللہ کے لئے ہے کیونکہ اہل بیت اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور وہ اللہ کے نیک اور فرمانبردار لوگوں میں سے ہیں جن سے محبت و تعلق واجب ہے ان سے محبت کی دوسرا سبب انکا وہ مقام و مرتبہ ہے جو حضور ﷺ کے ہاں ہے اور جو ان کی نسبی قرابت حضور ﷺ سے ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت روافض کے طریقے سے برائت کا اظہار کرتے ہیں جو انہوں نے غلو کیا اور اہل سنت والجماعت ناصبیوں سے بھی برائت ظاہر کرتے ہیں جو انہوں نے اہل بیت عظام کی عداوت میں اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لئے تحریک اٹھائی۔

حضور ﷺ کا رشتہ باعث نجات ہے:

خاتمہ المحققین علامہ ابن مابدین المعروف امام شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مختصر رسالہ العلم الظاہر فی نفع نسب الظاہر (میں تفصیل کے ساتھ نسب ظاہر کے نافع ہونے اور نہ ہونے پر بحث کی ہے اور آل نبی اور ذریت ظاہرہ کے فضائل و مناقب میں احادیث جمع کئے ہیں۔ مسند بزار اور طبرانی کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ فرمایا کہ:

ما بال أقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع أن كل سبب ونسب منقطع يوم
القيامة إلا سببي ونسبي وأن رحمى موصولة في الدنيا والآخرة
یعنی ان لوگوں کو کیا پڑ گئی ہے جو کہتے ہیں کہ میرا رشتہ قرابت فائدہ مند نہیں ہے یاد رکھو
ہر نسب اور تعلق قیامت کے دن ختم ہو کے رہ جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے
بے شک میرا رشتہ دنیا و آخرت دونوں میں قائم رہے گا۔

عجیب وقوی استدلال:

حدیث بالا کے ذکر کے بعد امام شامی قرآن کی ایک آیت سے عجیب استشہاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
آخر آپ کی قرابت رحم کیوں نہ فائدہ مند ہوگی حالانکہ قرآن میں ہے۔

أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان
أبوهما صالحا كهف: ۸۳

ان بچوں کے جن والدین کو نیک کہا گیا ہے ان کے اور ان بچوں کے درمیان سات پشتوں کا واسطہ ہے

آگے فرماتے ہیں۔

فلاریب فی حفظ زرینہ صلی اللہ علیہ وسلم واهل بیتہ فیہ وان کثرت
الوسائط بینہم و بینہ ۱

یعنی جب قرآن مجید دو بچوں کو اس لئے قابل تکریم و ترحیم بتلاتا ہے کہ ان کے آباء میں سے سات پشت پہلے کے والدین نیک تھے تو حضور اکرم ﷺ کے اولاد اطہار تو ان سے کتنے ہی درجے زیادہ لائق تکریم و تعظیم ٹہرتے ہیں فائزہم۔

امام جعفر الصادقؑ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ولهذا قال جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فیما أخرجه الحافظ عبد العزیز
بن الأختصر فی معالم العترة النبویة "احفظوا فینا ما حفظ العبد الصالح
فی الیتیمین وکان أبوہما صالحاً ۲

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی محافظت دیکھ بھال اس طرح کرو جیسے
حضرت خضر علیہ السلام نے ان دو یتیم بچوں کے حقوق کی دیکھ بھال کی تھی جن کے
والدین نیک تھے۔

غور و فکر کا مقام ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کر رہے ہیں ایک مقام پر ایک
دیوار اکھڑی ہوئی ہے اور اس دیوار کے مالک دو یتیم بچے ہیں اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا ہے جو کہ بقول
مفسرین سات پشت پہلے کے والدین کا ذمہ کیا ہوا ہے اور وہ نیک تھے بس صرف اسی سبب اس دیوار کی تعمیر
دو اولاد العزم بستیاں کر رہی ہیں تاکہ ان کا مال محفوظ رہے اور وہ بعد میں فائدہ اٹھائیں۔

تو رسالت مآب کے اولاد اطہار تو بدرجہ اولیٰ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت و عقیدت رکھی جائے ان
کے حقوق کی رسالت و محافظت نایت درجہ کی جائے اس پر مستزاد یہ کہ حضور ﷺ کی اولاد تقویٰ و علم و عزت میں یگانہ
روزگار ہیں۔

یہاں بعض حضرات اپنی بے مقصد و بے لگام تحقیق کی رو میں بہہ کر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا دلائل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا پیغمبر زادہ ہوتے ہوئے غرق ہونا اور عبداللہ بن ابی ابن سلول کے لئے حضور ﷺ کی قمیص کا مفید نہ ہونا اور حضور کی وہ حدیث مبارکہ جس میں اپنی اولاد سے اعمال میں مبادرت کے لئے کہا گیا ہے بیان کرتے ہیں۔

حالانکہ ایمان کی دولت سے محروم کنعان بن نوح کا موازنہ حضور ﷺ کی نیک اولاد جو کہ اولوالعزم اور تقویٰ و طہارت علم و عمل کے مینار ہیں سے کس طرح ہو سکتا ہے ان نام نہاد محققین کے مقابلہ میں بعض لوگ اندھی عقیدت میں حضور ﷺ کی شفاعت و رحم ہر ایک کے لئے ثابت کرتے ہیں یہاں تک کہ کافر اور غیر مومن کے لئے بھی نسب اور شفاعت مفید سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن اس نظریہ کی سختی سے تردید کرتا ہے۔

قول فیصل:

حضرت حکیم فرامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی خوبصورت اور مدلل بحث کی ہے۔ حضرت امام شامی اور حضرت تھانوی کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نسب و تبرک نافع ہے لیکن ایمان و عمل والے کے لئے بغیر ایمان کے نسب و تعلق و تبرک نافع نہیں ہے جیسے کنعان بن نوح کے لئے حضرت نوح کا بیٹا ہونا نافع نہ ہوا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کیلئے حضور ﷺ کی قمیص اور جب ایمان و عمل دونوں ہوں تو نسب بھی تعلق بھی اور تبرک بھی انتہائی مفید ہے جیسا کہ حضور کی اولاد اطہار جن کے بارے میں حضور ﷺ کے ارشادات بڑی کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بھی اس معتدل نظریہ کی تائید کرتا ہے۔

والذین امنوا واتبعتہم ذرئیہم بایمان ألحقنا بہم ذرئیہم وما ألنہم من

عملہم من شیء۔ طور ۱۲

ترجمہ: یعنی جو ایمان والے ہیں ان کی اولاد اگر ایمان والی ہے تو ہم ان کو بھی ان کے

ساتھ ملحق کر دیتے ہیں اگر عمل میں برابر نہ بھی ہوں تو بھی برابر کر دیں گے۔

یہی بات حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے۔

بروئے قرآن وحدیث کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ آپ کی اگلی اور پچھلی تمام نیک اور مومن اولاد ساتھ ہوں گی اور ان سے محبت کرنے والوں کے لئے شفاعت کا سامان ہوگا اور جنہوں نے انہیں ستایا یا تحقیق کے نام پر فتوے لگائے وہ کس منہ سے حضور ﷺ کا سامنا کر سکیں گے کیونکہ ان کے خلاف آپ ﷺ کی اولاد کی طرف سے مدعی خود سرور کائنات ہوں گے۔

بزرگوں کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے:

اسی بحث کے دوران حضرت تھانوی ایک واقعہ درج فرماتے ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بزرگوں کو اپنی اولاد کا کتنا لحاظ رہتا ہے فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی صاحبہ اپنے گھر پر لڑکیوں کو پڑھاتی تھیں اور کسی سے معاوضہ وغیرہ کچھ نہ لیتی تھیں ایک مرتبہ یہاں ایک سید کی لڑکی پڑھنے آئی وہ فرماتی تھیں کہ اسی روز رات کو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ عذرة النساء دیکھو میری بیٹی کو محبت سے پڑھانا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ”اسی طرح اور بہت سی بشارتیں اور منامات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے۔“

حضور اکرم ﷺ کو تو کہیں زیادہ خیال ہے جیسا کہ

حضرت حسینؑ کی شہادت کے دن حضور ﷺ کو خواب میں حضرت اُم سلمہؓ اور حضرت ابن عباسؓ دونوں نے دیکھا کہ آپ پریشان حال جسم و چہرہ مبارک غبار آلود ہے اور ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی شیشی ہے فرماتے ہیں کہ میں حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر کر آ رہا ہوں۔

حافظ سخاوی نے استحلاب میں کئی واقعات اس قبیل کے ذکر کئے ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ آل رسول ﷺ میں کسی کو سکھ پہچاننے پر حضور ﷺ خوش نظر آتے ہیں اور دکھ و تکلیف دینے پر حضور ﷺ ناراض اور دکھی دکھائے دیتے ہیں اور اعراض فرماتے نظر آتے ہیں۔

فاروق اعظمؓ کی حضور ﷺ سے رشتہ دامادی کے لئے کوشش:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ام کلثومؓ بنت علیؓ نواسی رسول ﷺ سے شادی کا واقعہ اہم اور نہایت سبق آموز ہے جہاں اس میں صحابہ کرام بالخصوص خلفاء راشدین کے گھریلو تعلقات کا پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ رشتہ نبوی کی اہمیت وقعت اور درجہ معلوم ہوتا ہے۔

حافظ سخاوی نے احتجاج میں ابن سحاق نے اپنی سیرۃ میں اور دیگر محدثین نے بھی مختلف سندوں سے یہ

واقعہ نقل کیا ہے کہ

حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی بیٹی حضور ﷺ کی نواسی سیدہ ام کلثومؓ بنت فاطمہؓ کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علیؓ نے اپنے صاحبزادوں حضرت ام کلثومؓ کے بھائیوں حضرات حسنینؓ سے فرمایا کہ ام کلثومؓ کی شادی حضرت عمرؓ سے کر دیں انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی عام عورتوں کی طرح ہیں خود فیصلہ کر لے اس پر حضرت علیؓ ناراض ہو کر اٹھے تو حضرت حسینؓ نے آپ کا دامن تھاما اور فرمایا کہ اے ہمارے بابا آپ کی ناراضگی اور فرقت ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے چنانچہ انہوں نے سیدہ ام کلثومؓ کو حضرت عمرؓ سے بیاہ دیا حضرت عمرؓ سے کہا گیا یہ تو ابھی چھوٹی بچی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

كل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي و نسبي و كل ولد أم فإن
عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمه فإنني أنا أبوهم و عصبتهم (۱)

ترجمہ:

”ہر تعلق اور نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے سوائے میرے تعلق اور نسب کے اور ہر بچہ ماں کا اس کا عصبہ اس کے والد کی طرف ہوتا ہے سوائے فاطمہؑ کی اولاد کا کیونکہ ان کا عصبہ اور باپ میں ہی ہوں“

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس لئے میں نے پسند کیا کہ میرے اور حضور ﷺ کے درمیان بھی تعلق و نسبت رشتہ صہری قائم ہو (تا کہ قیامت کے دن یہ رشتہ نجات کا فائدہ دے) اور خوشی سے لوگوں کو کہتے کہ لوگو تم مجھے مبارکباد دو کہ میرا حضور ﷺ سے رشتہ دامادی قائم ہوا ہے۔ حضرت عمرؓ کی روایت کردہ یہ حدیث آپ کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت مسور بن مخرمہ سے بھی مروی ہے۔^۱

امام شامی کا فیصلہ فتویٰ:

آخر میں امام شامی اپنے عقیدہ کا اظہار اس والہائے انداز سے فرماتے ہیں۔

بشهادة ما تقدم من النصوص الدالة على أن نسبة الشريف نافع لذريته الطاهرة وأنهم أسعد الانام في الدنيا والآخرة لقد أكرم في الدنيا مواليتهم حتى حرم أخذ الزكاة عليهم وما ذالك إلا لانتسابهم إليهم ولم يفرق بين طائعتهم وعاصيتهم فكيف ومع أنهم مكرم لأجلهم ومتفضل على غيرهم لفضلهم منتسبون نسبة حقيقة إلى أشرف المخلوقات وأفضل اهل الأرض والسموات الذي أكرمه تعالى بما لا يبلغ لاقله - خلق الكون لأجله وشفعه بما لا يحصى من اهل الكباثر المصيرين عليها فضلاً عن الصغائر وأسكنهم لأجله فسيح الجنان وسبل عليهم رداء العفو والغفران أفلا يكرمه بانقاد ولده الذين هم بضعة من جسده ويرفعهم الى الدرجة العليا كما رفعهم على أعيان الأنام في الدنيا وحاشاه صلى

۱۔ مجمع الزوائد ۱۸۳، معرفة الصحابة لأبي نعيم ۵۶، معجم طبرانی ۲۸۲، سنن الكبرى ۱۰، ۱۸۸

اللہ علیہ وسلم أن يشفع بالأبعد ويضيعهم و ينسى قرابتهم له
ويقطعهم۔ مجموعہ رسائل ۱

عزت نبوی صحابہ کرام و اکابرین امت کی نظر میں:

یوں تو اس موضوع پر ایک مستقل ضخیم تصنیف وجود میں آسکتی ہے لیکن چند ایک واقعات پر اکتفا کیا جائیگا۔

خلیفہ رسول ﷺ اور آل رسول ﷺ:

خلیفہ رسول ﷺ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ
آپ نے فرمایا:

إرقبوا محمد أفي أهل بيته ۛ

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ

حضور اکرم ﷺ کے اہل بیت کی رعایت کرو اور احترام و اکرام کرو۔ ان کا حضور سے
رشتہ کے سبب حد درجہ تعظیم و تکریم کرو اور ان کے حقوق کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ ۛ

یہ خلیفہ رسول ﷺ کی امت کو اہل بیت کے بارے میں وصیت ہے۔

اور بخاری شریف میں ہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت علیؓ سے فرمایا:

”والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ أحب الی أن أصل من قرابتی“ ۛ

اللہ کی قسم میرے نزدیک حضور ﷺ کے قرابت دار اپنے رشتوں سے زیادہ صلہ رحمی کے لائق و مستحق ہیں۔

شبیبہ الرسول ﷺ:

ایک صحیح روایت میں ہے کہ

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت حسنؓ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضرت علیؓ سے ارشاد فرمایا

میرے باپ کی قسم میں ایسے آدمی کو اٹھائے ہوئے ہوں جو نبی کا شبیہ ہے علی کا شبیہ نہیں ہے اور حضرت علیؑ مسکرا رہے تھے۔
 حسنؑ کو دیکھ حسینؑ کو دیکھ
 دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے
ابوبکرؓ اور اہل بیت کی تعظیم:

دارقطنی میں یہ روایت ہے کہ

حضرت حسنؑ حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے آپ اس وقت منبر رسول ﷺ پر تھے انہوں نے آ کر کہا میرے باپ (حضور ﷺ) کے منبر سے اتر آئیں آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے خدا کی قسم یہ جگہ تیرے باپ ہی کی ہے پھر آپ نے انہیں پکڑ کر گود میں بٹھالیا

اور روپڑے سے

یہ محبت اور تعظیم کی اعلیٰ مثال ہے۔

تکریم اہل بیت حضور ﷺ کی دلداری ہے:

حضرت انسؓ کا ارشاد ہے کہ حضور ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ

حضرت علیؑ آئے اور سلام کہنے کے بعد کھڑے ہو کر بیٹھنے کے لئے جگہ دیکھنے لگے حضور ﷺ صحابہ کرام کے چہروں کے طرف دیکھنے لگے کہ کون ان کے لئے جگہ بناتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ آپ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور ان کے لئے جگہ خالی کر دی اور فرمایا ابوالحسن یہاں تشریف لائے وہ آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ کے درمیان بیٹھ گئے حضور ﷺ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے آپ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا۔ اہل فضل کی فضیلت صاحب فضل ہی جانتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابوبکرؓ کا حضرت عباسؓ عم الرسول کو جگہ دینے کا بھی آتا ہے۔

سادات کی زیارت بھی عبادت ہے:

ابن عبدالبر مالکی نے لکھا ہے کہ

حضرت ابو بکرؓ حضرت علیؓ کے چہرہ انور کو بار بار دیکھا کرتے تھے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ ”میں نے حضور ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ علیؓ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔“ ۱

اور حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی حضرت عباسؓ سے سوار حالت میں نہیں ملتے تھے بلکہ سواری سے اترتے اور حضرت عباسؓ کی سواری کا رکاب تھامتے تھے علاوہ ازیں بہت سی روایات آپ کے سادات کے ساتھ خصوصی لگاؤ و محبت اور انکی دیکھ بھال کے جذبہ کو بیان کرتی ہیں۔

فاروق اعظم اور اہل بیت

سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عباسؓ کے اسلام لانے پر ان سے فرمایا:

حضور کی خوشی میں خوشی:

”والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب (يعني والده) لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلي رسول الله من إسلام الخطاب“ ۲

ترجمہ:

اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا جب آپ اسلام لانے میرے لئے زیادہ پسندیدہ تھا میرے والد خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ لاتے کیونکہ آپ کے اسلام سے جو خوشی حضور ﷺ کو ہوتی وہ میرے والد کے اسلام سے نہ ہوتی۔
یعنی چچا کے اسلام سے زیادہ خوشی ہوتی۔

قرب الی اللہ کے لئے قربی رسول سے قرابت و تعلق:

ابن عبد البر مالکی لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو بارش کے لئے وسیلہ بنا کر فرمایا۔
 ”اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے
 شفاعت طلب کرتے ہیں پس تو اس بارے میں اپنے نبی کا ایسے لحاظ فرما جیسے تو نے دو
 لڑکوں کا ان کے باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے لحاظ فرمایا تھا“

ابن قتیبہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا

اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور بقیہ آبا اور کثرت رجال کے ذریعے تیرا قرب طلب
 کرتے ہیں کیونکہ تیرا قول برحق ہے۔ أما الحداد فکان لعلامین یتیمین اے اللہ
 تو نے ان دونوں سے ان کے باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے لحاظ فرمایا تھا اے اللہ
 اپنے نبی کا آپ ﷺ کے چچا کے معاملہ میں لحاظ فرما، ہم اس کے ذریعے شفاعت طلب
 کرتے ہوئے تیرے قریب ہوئے ہیں۔

محدث ابن حجر حیمتی نے ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہجرت کے سترہویں سال عام
 الرمادہ کو لوگوں نے بار بار نماز استسقاء پڑھی مگر بارش نہ ہوئی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

”کل میں اس شخص کے ذریعے بارش طلب کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے ہم پر
 بارش برسا دیں گے“

دوسرے دن صبح کو آپ حضرت عباسؓ کے گھر تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا انہوں
 نے دریافت کیا کون ہے آپ نے فرمایا، عمرؓ، انہوں نے کہا کیا کام ہے آپ نے فرمایا
 باہر تشریف لائے ہم آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا چاہتے ہیں انہوں
 نے کہا تشریف رکھئے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی حاشم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ پاک
 ہو کر اچھے کپڑے زیب تن کر لیں۔ جب وہ آئے تو آپ نے خوشبو نکال کر انہیں خوشبو
 لگائی پھر باہر نکلے تو حضرت علیؓ آپ کے سامنے آگے کی طرف تھے اور ان کے دائیں

بائیں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ اور پیچھے پیچھے بنو ہاشم تھے حضرت عباسؑ نے فرمایا اے عمرؓ دوسرے لوگوں کو ہمارے ساتھ نہ لانا۔ پھر آپ مصلیٰ پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر حمد و ثنا کی اور کہا اے اللہ تو نے ہمیں ہمارے مشورہ کے بغیر پیدا کیا اور تو ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے اعمال کو جانتا ہے پس تیرے علم نے تجھے ہمارے رزق کے متعلق نہیں روکا اے اللہ جیسے تو نے اس کے شروع میں فضل کیا ہے اس کے آخر میں بھی فضل فرما حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہرے تھے کہ خوب بادل برسنا اور ہم گھروں کو پانی میں چلتے ہوئے آگئے۔

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ بھی حضرت ابو بکرؓ کی طرح کبھی بھی سوار حالت میں حضرت عباسؑ سے نہیں ملتے تھے بلکہ سواری سے اترتے اور دوڑ کر حضرت عباسؑ کے سواری کا رکاب تھامتے۔ یہ اس لئے کہ ان کا ادب دراصل حضور ﷺ کا ادب ہے۔

اہل بیت کی عیادت و زیارت عبادت ہے:

حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی سندوں سے یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت زبیر بن عوامؓ سے فرمایا کہ

ہمارے ساتھ چلے ہم حضرت حسن بن علیؑ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زبیر سے تھوڑی دیر ہوئی تو فرمایا: ”کیا آپ کو علم نہیں کہ بنی ہاشم کی عیادت فرض اور انکی زیارت نقل ہے“

حضور اکرم ﷺ حضرات حسنینؑ کو کندھوں پر اور کود میں اٹھائے پھرتے تھے اور مسجد میں بھی برسر منبر ان کو کود میں رکھتے تھے اور ان کی دلداری کرتے دنا نہیں فرماتے چومتے تھے۔ بالکل اسی طرح حضرات شیخین حضرت ابو بکرؓ و

عمرؓ سے بھی منقول ہے ایک دفعہ سیدنا عمرؓ نے حضرت حسنؓ کو مسجد میں دوران خطبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ ہم نے یہ بلندی آپ کے والد (نبی ﷺ) کے ذریعے حاصل کی۔

اہل بیت سب پر مقدم ہیں:

ایک دفعہ حضرت سیدنا عمرؓ گھر پر تشریف فرما تھے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابن عمرؓ نے اجازت چاہی تو نہ ملی اسی اثنا میں حضرت حسنؓ بھی تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمرؓ کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی یہ سوچ کر واپس ہوئے حضرت عمرؓ کو ان کے آنے اور واپسی کی اطلاع ہوئی تو بلوانے کے لئے بھیجا آئے تو حسنؓ سے فرمایا آپ کیوں واپس ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ جب ابن عمرؓ کو اجازت نہ ملی تو مجھے بھی نہ ملے گی۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”ابن عمرؓ کا آپ سے کیا موازنہ آپ کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں جب چاہیں چلے آئیں“

ولداری حسنینؓ کے لئے ہمہ وقت بے چین:

ایک دفعہ یمن سے کچھ حلے آئے جنہیں حضرت عمرؓ نے تقسیم فرمایا ان میں حضرات حسنینؓ کے برابر کا نہ تھا تو آپ اتنے زیادہ افسردہ خاطر ہوئے کہ ابدیدہ ہو گئے فوراً یمن پیغام بھیجا کہ حضرات حسنینؓ کے برابر کے حلے بنا کر بھیجیں جب حلے بن کر آئے تو خود پہنایا اور چین نصیب ہوا۔ کیا ہی کہنے اس عقیدت و وارثی کے۔ عطایا ہدایا اور روزینہ جات میں حضرات حسنینؓ اور دیگر خاندان نبوت کو سب سے زیادہ حصہ عطا فرماتے تھے۔

قربت رسول سے اس طرح پیش آئیں:

حضرت زید بن ثابتؓ کی والدہ کا انتقال ہوا جنازہ کی نماز کے بعد واپسی پر حضرت عبداللہ بن عباس نے اگر اہل بیت زید بن ثابتؓ کے خچر کی لگام پکڑ کے چلنے لگے تو حضرت زید نے منع فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہمیں اہل علم کے ساتھ یہی معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر حضرت زید نے حضرت ابن عباس

کا ہاتھ کھینچا بوسہ دیا اور فرمایا کہ ”قرابت رسول سے اس طرح پیش آنے کا نہیں حکم دیا گیا ہے۔“ (۱)

عمر ثانی اور اہل بیت:

حضرت علی زین العابدینؓ کی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں کسی کام سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوئی اس وقت وہ مدینہ کے امیر تھے تو انہوں نے وہاں موجود تمام لوگوں کو نکال دیا اور فرمایا اے علی کی بیٹی خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی خاندان آپ کے خاندان سے زیادہ مجھ کو عزیز و محترم نہیں اور میرے گھر والوں سے بھی آپ کہیں زیادہ عزیز ہو۔^۲

اولاد کی راحت سے انہیں بھی راحت ملتی ہے:

حضرت حسن المجتبیٰ کے پوتے عبداللہ بن حسن لشبلی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس نوعمری میں آئے آپ کے بال لمبے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو بلند جگہ پر بٹھایا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی قوم نے آپ کی ملامت کی اس پر آپ نے فرمایا:

”مجھ سے ثقہ آدمی نے بیان کیا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اے حضور ﷺ کے منہ سے سن رہا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اس کو خوش کریگا اس سے میں خوش ہونگا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر حضرت فاطمہ زندہ ہوتیں تو میں نے ان کے بیٹے سے جو سلوک کیا ہے اس سے وہ خوش ہوتیں۔“^۳

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن آپ کے پاس کسی حاجت سے تشریف لائے تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ کو جب کوئی ضرورت ہو تو مجھے پیغام بھجوادیا کریں یا لکھ دیا کریں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ وہ آپ کو میرے دروازے پر دیکھے۔^۴

انہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہی اہل بیت پر لعن و طعن کے رواج کو ختم کر دیا اور تمام عمال کو سختی سے حکم

جاری کیا کہ

۱۔ الشفاء ۳۹ ج ۲ الاستیعاب ۱۵۰ جلد مع البیان العلم ۱۵۵ ج الاستیعاب ۱۵۱ ج صواعق محرقة ۸۹ ج الاستیعاب ۱۵۰ ج الشفاء

اہل بیت کے حقوق کی بہت پامانی ہو چکی ہے اس کے ازالہ کی کوشش کرو اور ان کے اکرام اور حقوق کی نگہبانی میں کوئی کسر نہ رکھو۔

قرابت رسول ﷺ سے پہنچنے والی تکلیف کو تکلیف ہی نہ جانا:

حضرت امام دارالرحمہ مالک بن انسؒ نے بھی محبت اہل بیت میں دردناک مصائب برداشت کئے ہیں۔
والی مدینہ جعفر بن سلیمان عباسی جو کہ اولاد عباس عم الرسول میں سے تھے جب انہوں نے حضرت امام صاحب کو زد و کوب کیا اور کوڑے مارے تو آپ نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا کہ کہیں میری منہ سے بعد میں قرابت رسول میں کسی کو کوئی سزا ہو فرمایا۔

”اعوذ باللہ واللہ مار ترفع سوط عن جسمی إلا وقد جعلتہ فی حلّ

لقرابتہ من رسول اللہ“

اہل بیت کی تکریم عین حضور ﷺ کی تکریم ہے:

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ تو محبت خاندان نبوت میں ہی شہید ہو گئے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کی روایت ہے کہ جب امام صاحب کی ملاقات حضرت امام محمد بن علی الباقر سے ہوئی تو آپ نے تعظیم فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں جیسے آپ کی شان کے لائق ہے پھر ہم بیٹھ سکیں گے پھر فرمایا۔
”واللہ آپ کا احترام ہمارے لئے اس طرح لازم ہے جس طرح آپ کے نانا حضرت محمد ﷺ کا احترام آپ کے صحابہ پر لازم تھا اور وہ کرتے تھے“

امام اعظم اور اہل بیت

شیخ الاسلام جوینی فرما کہ المسلمین میں امام صاحب کی مودت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وقد کان الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ من المتمسکین بولاء:

اہل بیتہ الظاہرین و المتنسکین بالانفاق علی المستورین منہم

والظاہرین حتی قبل انہ، بعث الی المستتر منہم فی ایامہ اثنی عشر

الف درهم دفعة واحدة كرامة له - وكان يأمر أصحابه برعاية أحوالهم
 وتحقيق آمالهم والاقتضاء لأنارهم والاهتدأ بأنوارهم - ع
 ترجمہ: تحقیق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کے دوستداروں میں سے تھے اور
 اپنا مال اہل بیت کے خفیہ اور ظاہر ائمہ پر بچھاؤ کرنے والوں میں سے تھے کہا جاتا ہے
 کہ آپ نے اہل بیت کے ایک بزرگ کو جو کہ حکومت وقت سے چھپے ہوئے تھے کو بارہ
 ہزار درہم یکمشت پیش خدمت فرمایا بطور اگرام کے۔ امام صاحب اپنے ساتھیوں کو اہل
 بیت کی رعایت احوال اور ضروریات کی فراہمی اور ان کی اقتداء کا حکم فرماتے تھے

امام شافعی اور حب اہل بیت:

امام شافعی پر حب علی و اہلبیت کے سبب رفض کا الزام دھرا گیا۔ لیکن حقیقت میں رفض حب سادات کا نام
 نہیں بلکہ سب صحابہ علامت رفض ہے۔ مزید وضاحت کیلئے امام شافعی کے مکمل اشعار درج کیے جاتے ہیں جس میں
 انہوں نے لوگوں کے طعنوں کا جواب دیتے ہوئے حقیقت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا۔

قالوا ترفضت؟ قلت كلاً
 ما لرفض ديني ولا اعتقادي
 لكن توليت غير شك
 خير امام و خير هادي
 ان كان حب الولي رفضاً
 فاني ارفض العبادي ٢

ترجمہ: لوگ کہتے ہیں کہ میں رافضی ہو گیا۔ میں نے کہا ہرگز ہرگز رفض میرا دین ہے نہ عقیدہ۔ لیکن میں
 نے بہترین امام اور ہادی (علی) سے بے شک دوستداری کی ہے۔ اگر علی کی محبت رفض ہے۔ میں سب سے بڑا
 رافضی ہوں۔

ایک اور موقع پر فرمایا

يارا كباقف بالمحصب من منى
 سحراً اذا فاض الحجيج الى منى
 انى أحب بنى النبى المصطفى
 واهتف بقاعد خيفها و الناض
 فيضا كملتظم الفرات الفاض
 وأعدّه من واجبات فرائضى

لوکان رفاض صاحب آل محمد۔ فلیشهد الثقلان أنى رافضى ۛ

ترجمہ: اے سوار منی کے مقام معصب پر کھڑے ہو کر میدان خیف کے بیٹھے
والوں اور کھڑے لوگوں کو آواز دو جب سحر کو حجاج مزدلفہ سے منی کی طرف وادی کے
سیلاب کی طرح اندتے ہیں کہ میں نبی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں اور اس کو واجبات دین
میں سمجھتا ہوں اگر محبت اہل بیت کا نام رفاض ہے تو جن و انس کو واہ رہیں کہ میں بھی
رافضی ہوں۔

ابیات شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس بات اور عقیدے سے مطلع ہو جائے کہ میں اولاد نبی سے
محبت کرتا ہوں اور اس کو اپنے عقیدے کا حصہ اور فرائض دین میں سمجھتا ہوں۔ میرے حب آل محمد پر طعنہ دینے
والے اگر محبت اہل بیت کو رفاض کہتے ہیں تو وہ جان لیں کہ میں بھی رافضی ہوں۔

ایک مرتبہ امام شافعیؒ ایک جگہ مجلس میں تشریف لائے جہاں آل ابی طالب کے بعض اہل علم تھے امام
صاحب نے کہا میں ان حضرات کے سامنے کام نہیں کروں گا یہ لوگ اہل فضل و کمال ہیں۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں
کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے امام شافعی سے کہا کہ آپ کے اندر تشبیح کی خوبوہ آپ آل نبی سے محبت کا اظہار
کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا! کیا رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا کہ۔

لایؤمن أحدکم حتیٰ اکون أحب الیہ من والدہ وولدہ والناس
أجمعین۔ (۲)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے
نزدیک اس والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جاؤں۔

اور فرمایا! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ متقی لوگ میرے دوست اور قرابتدار ہیں اور متقی اور نیک رشتہ داروں
سے محبت کا حکم ہے۔ میں ایسی صورت میں رسول اللہ ﷺ کے نیک رشتہ داروں سے کیوں نہ محبت کروں پھر اپنے
مشہور اشعار کہے۔

بعض تاریخوں میں یہ بھی نقل ہے کہ آپ نے ہارون الرشید کے دور میں اہل بیت کے کسی تحریک کے ساتھ

بھی دیا اور بیعت بھی کی۔ آپ کی شہرہ آفاق تصنیف کتاب الام میں باغیوں کے بارے میں معاملات کے اسلامی فقہی مسائل آپ نے حضرت علی کی لڑائیوں سے مستنبط کیا ہے اور حضرت علی کے افعال و اقوال کو دلیل بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے اسی کو دلیل بنا کر آپ پر شیعیت کا الزام لگایا۔

امام احمد بن حنبل اور اہلبیت

امام احمد بن حنبل فقہ وحدیث کے جلیل القدر صاحب رسوخ امام تھے اور کسی شرعی حکم کے اظہار میں کس قسم کے ملامت اور ایذا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے آپ کے دور میں مسئلہ خلق قرآن مشہور ہے جس میں آپ نے حفاظت قرآن کا حق ادا کیا اسی طرح دوسرے اعتقادی مسائل میں آپ کی رائے میں صواب اور موافق کتاب ہے آپ کے دور میں کوئی تحریک سادات کی نہیں اٹھی بلکہ عباسی آپس میں اختلافات کا شکار رہے البتہ ناصبیت کا زور متوکل کے دور میں ہوا تو آپ نے جذبہ احقاق حق و ابطال باطل کے تحت آپ نے فتنہ ناصبیت کی بھر پور تردید فرمائی اور سیدنا علی المرتضیٰ کا اور اہل بیت کی کما حقہ دفاع کیا ذیل میں آپ کے کتب مناقب میں سے آپ کا مذہب و عقیدہ کے چند نمونے درج کئے جاتے ہیں۔

علی کا دفاع

ثم نرى أحمد يعترف بخلافة علي رضي الله عنه ويراها خلافة ويصرح
بذلك فيقول "من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار
سبحان الله! يقيم الحدود ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وحب له
أعوذ بالله من هذا المقالة نعم خليفه رضيه أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم وصلوا خلفه وغزوا معه وحجوا وكان يسمونه
أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين فنحن له ذبح

ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے خلافت کو برحق سمجھتے تھے اور اس کی تصریح بھی

فرمائی فرمایا

"جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی امامت (خلافت) کو تسلیم نہیں کرتا وہ گدھے سے بھی

زیادہ گمراہ و احمق ہیں..... سبحان اللہ آپ نے حدود شرعی قائم کئے اور صدقات و اجیہ وصول کیے اور تقسیم کئے بغیر استحقاق کے“ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی باتوں سے کیا ہی خوب خلیفہ ہے کہ ان پر اصحاب رسول راضی ہیں ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں وہ اور آپ کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارتے ہیں یہ رضا مندی اور صدق دل کے ساتھ تھا اور ہم تو ان کے تابع ہیں“

احمد بن حنبل کا ناصبیوں سے علی کا دفاع

اور امام ابن جوزی کے مناقب احمد کا حوالہ کے ساتھ ابو زہرہ اپنی کتاب ابن حنبل میں لکھتے ہیں۔
 ویسشتند فی الدفاع عن علی رضی اللہ عنہ عند ما نجد أحدا یمسہ
 أو یمس خلافتہ و ذالک لأنه فی عهد المتوکل قد کثر الطعن فی ذالک
 الامام العادل سیف الاسلام إذ کان المتوکل ناصبیا ای من الذین
 یناصبون علیاً العداوة و یطعنون فیہ فکان أحمد یرد أقوالہم و ینذ کر
 خلافتہ علی و مناقبہ رضی اللہ عنہ فیقول ”إنّ الخلافة لم ترین علیاً بل
 علی زینہا“ و یقول علی ابن ابی طالب من أهل البيت لا یقاس بہم
 أحد“ و یقول ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانید الضحاح مثل
 ما لعلی رضی اللہ عنہ“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دفاع بڑے شد و مد سے کرتے تھے جب
 بھی کوئی آپ کے شان میں طبع آزمائی کرتا کیونکہ وہ زمانہ متوکل عباسی کا تھا اور اس دور
 میں حضرت علی پر شدید لعن و تشنیع کی جاتی تھی کیونکہ متوکل بھی ناصبی تھا جو حضرت علی کی
 دشمنی کے علمبردار تھے اور آپ پر طعن کرتے تھے تو امام احمد ان کی باتوں کا جواب دیتے

اور آپ کے فضائل مناقب آپ کی خلافت کی حقانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے
 ”بے شک خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے خلافت کو زینت بخشی“ اور
 فرماتے ”علی بن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا
 جاسکتا“ اور فرماتے ”کسی بھی صحابی کے بارے صحیح اسانید کے ساتھ اتنے فضائل منقول
 نہیں۔ جتنے کہ سیدنا علی کے بارے میں ہیں“

اتباع اہل بیت کی تصویب اور عادلانہ دفاع

الناس علی دین ملو کہم کے مصداق لوگ ہر اس علمی شخصیت پر ناحق طعن کرتے تھے جن کا مذہبی سوچ
 شاہوں کے مذہب سے موافقت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ویسی تھی جو کہ اکابر ائمہ اہل
 سنت کی تھی اور ضرورت اور غیرت دینی کے وجہ سے حضرت علی کا دفاع کرتے اور ان کے فضائل و مناقب علی الا
 علان بیان فرماتے تھے تو ناصبی ذہن رکھنے والے لوگ اور خاندانی رقابت رکھنے والے امراء آپ پر تشیع کا ناحق
 الزام دھرتے تھے اور آپ سے ان الزامات کے جواب میں اشعار بھی مشہور ہیں جن کو ہم نے درج کر دیا ہے۔
 الزامات کے اس تشلیعی سیلاب سے بڑے اہل علم پر متاثر ہوئے۔ امام آمیری کی مناقب شافعی میں یہ واقعہ درج
 ہے۔

قیل لأحمد إن يحيى بن معين ينسب الشافعي إلى الشيعة، فقال أحمد
 ليحيى بن معين: كيف عرفت ذلك؟ فقال يحيى نظرت في تصنيفه في
 قتال أهل البغي فرأيتهم قد احتج من أوله إلى آخره بعلی ابن أبي
 طالب، فقال أحمد: يا عجباً لك فيمن كان يحتج الشافعي في قتال
 أهل البغي؟ فإن أول من أبتلى من هذه الأمة بقتال أهل البغي هو
 علی ابن أبي طالب فحجل ابن معين.

”امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ یحییٰ بن معین امام شافعی کو تشیع کی طرف منسوب کرتے
 ہیں امام احمد نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ تم نے یہ کس طرح سمجھا؟ یحییٰ بن معین نے

جواب دیا کہ میں نے امام شافعی کے تصنیف (کتاب الام) میں باغیوں سے قتال و جنگ کے مسائل دیکھے تو میں نے آپ کو شروع سے آخر تک حضرت علیؑ سے استدلال و احتجاج کرتے پایا۔ اسپر امام احمد نے فرمایا کہ تم پر تعجب ہے امام شافعی ان سے استدلال نہ کرتے تو کس سے کرتے ان مسائل میں۔ کیونکہ اس امت میں سب سے پہلے باغیوں سے جنگ کرنے سے صرف علی کرم اللہ کو سابقہ پڑا ہے۔ اسپر ابن معین شرمندہ ہوا۔

حضرت امام احمد بن حنبل کو صرف اسے لئے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایک محب اہل بیت کو قریب رکھتے تھے اور ان کو ثقہ کہتے تھے ان کا یہ معمول تھا کہ ان کے مجلس میں جب بھی کوئی قریشی آتا تو ان کو مقدم فرماتے تھے۔ امام احمد جب جیل میں تھے تو امام ابو حنیفہ کو حب اہل بیت کے جرم میں پہنچنے والی اذیتوں اور شہادت کو یاد کر کے روتے تھے اور معتصم کو جس نے آپ کو سزا دی تھی اسکے حضرت عباس کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسکی مغفرت کیلئے دعا کرتے تھے امام نسائی کو دمشق میں حضرت علی کے فضائل بیان کرنے پر اتنا مارا کہ آپ کی جان جلی جاتی آپ پر بھی تشیع کا الزام ہے۔

محدثین کرام کے ہاں اہل بیت کا مقام:

محدثین کرام کے ہاں احمد اہل بیت سے سماع حدیث و روایت حدیث بہت ہی متبرک اور باعث فخر ہے۔ چنانچہ محدثین کے ہاں حدیث کی وہ سند جس کے تمام راوی یا اکثر راوی جو کہ مسلسل ہو اگر سادات کرام ہو تو ایسی سند کو سلسلہ ذہب قرار دیتے ہیں یہ ان سادات کے تقویٰ تدین اور حضور سے نسبت کے باعث محدثین کی ان سے عقیدت کا اظہار ہے۔

نمونہ کے لئے ایک سند کا تذکرہ برائے تبرک کیا جاتا ہے محدث ابن حجر ہتیمی نے صواعق محرقہ میں امام مناوی نے شرح جامع الکبیر میں اور حضرت مدنی نے مکتوبات شیخ الاسلام میں حضرت شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر نے شوق حدیث میں اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں اور دیگر محدثین نے اپنے کتابوں میں واقعہ درج کیا ہے۔

حضرت امام علی رضاً سے محدثین کی سماع حدیث

امام حاکم تاریخ نیشاپور میں لکھتے ہیں کہ

”حضرت امام علی الرضا بن موسیٰ اکاظمؑ جب نیشاپور تشریف لائے تو لوگوں کے حد درجہ ازدحام سے نیشاپور کا عجیب صورت حال تھی بیک وقت ہزاروں آدمیوں کے ہجوم و مرور سے تمام شہر گرد و غبار میں چھپ گیا تھا راستوں میں راہ گیر ایک دوسرے کو سوجھائی نہیں دیتے تھے۔ بیس ہزار آدمیوں نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اپنے آباء کرام کے سند سے حدیث کے روایت کی التجا کی تاکہ اہل بیت کرام کے سلسلہ عالیہ اسناد سے مشرف و مفتخر ہوں ان بیس ہزار آدمیوں میں دو عظیم المرتبت محدثین امام ابو زرہ اور محمد ابن اسلم طوسی بھی تھے ان کی التجا پر آپ نے خچر کو روکا اور اپنے نوجوان خدام کو سائبان بنانے کا حکم دیا اور مخلوقات نے آپ کے روئے مبارک کے دید سے اپنی آنکھوں کو چھنڈا کیا آپ کے گیسوؤں کی دولیس آپ کے کندھوں تک لگی ہوئی تھیں اور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کچھ چلا رہے تھے اور کچھ گریہ کناں تھے۔ علماء محدثین چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ خاموش ہو جاؤ لوگ خاموش ہوئے تو امام ابو زرہ اور امام محمد بن اسلم نے علماء حدیث کی خوانہش کا اظہار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

سلسلہ ذہب

حدیثی ابي سيدنا الإمام موسى الكاظم عن أبيه سيدنا الإمام جعفر الصادق عن أبيه سيدنا الإمام محمد الباقر عن أبيه سيدنا الإمام علي زين العابدين عين أبيه سيدنا الإمام أبي عبدالله الحسين ربحان رسول الثقلين عن أبيه سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال حدثني جدی وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال حدثني جبرائيل عليه السلام قال قال رب العزة ذوالجلال و
الاکرام :

لااله الاالله حصني فمن قالها دخل حصني و من دخل حصني آمن
عذابی (الحديث)

اس کے بعد پردہ گرایا اور چل پڑے اصحاب قلم و دوات کے شمار کے مطابق حدیث لکھنے
والوں کی تعداد میں ہزار سے زیادہ تھی ۔

اوپر گزری سند اور عربی عبارت حدیث استاذ مکرم حضرت ذہبی وقت مولانا عبدالرشید نعمانی کے ثبوت سے
نقل کیا گیا ہے جس کی سند باعازت آپ تک پہنچی ہے اور آپ نے اس حقیر کو بھی تقریراً و تحریراً اجازت روایت اور
اجازت حدیث کے ساتھ عنایت فرمایا

فلله الحمد والمنة على هذه النعمة

نام بھی باعث برکت و شفاء ہے

امام مناوی محدث ابن حجر اور دیگر محدثین کرام نے بھی امام احمد بن حنبل کے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے
مذکورہ بالا سند کے بارے میں فرمایا ہے کہ

”اگر کوئی صرف اس سند ہی کو پڑھے اور مجنون پر پھونک دے تو اس کا جنوں جاتا
رہے۔“

حضرات حسنینؓ اور مجبین حسنینؓ کیلئے حضور کی دعائیں

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ

”حضور ﷺ نے حضرت حسنؓ اور حسینؓ کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ میں ان دونوں
سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے
حقیقت میں مجھ سے محبت کی۔“

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت اسامہؓ سے یہ الفاظ منقول ہیں۔

”اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھے“

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اور طبرانی میں حضرت سعید بن زید سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی۔

”اے اللہ مجھے حسنؓ سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما“

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ

نبی کریم ﷺ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا رکھا ہے اور یہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما

وہ لوگ کہ جنہیں حضور کی سچی محبت میسر ہے زہے نصیب اور جو لوگ محبت رسول کی اور اطاعت رسول کا دعویٰ تو رکھتے ہیں۔ وہ جستجو کر کے دیکھیں کہ حضور ﷺ کو کن سے محبت ہے اور کتنا ہے اور کن سے کیوں محبت رکھتے ہیں۔ اور معلوم ہو جائے تو ان تمام سے ویسی محبت پیدا کی جائے جن سے حضور کو محبت ہے وگرنہ ان کی حضور ﷺ سے دعوائے محبت فضول ہے۔

رشتوں کی پاسداری ہر مومن کی ذمہ داری

دین فطرت کی حیات آفرین تعلیمات میں سے ایک اہم معاشرتی و عمرانی تعلیم و اصول یہ بھی ہے۔ کہ ہر کلمہ کو مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے اقرباء، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے ان سے محبت رکھے دکھ درد میں شریک ہوں اور کمزور و نادار ہے تو خرچ کرتے وقت سب سے زیادہ انہی کو مستحق قرار دیا قرآنی الفاظ میں

وَأَنْوَادُوى الْقَرْبِىِّ حَقْد -

اقرباء و رشتہ داروں کو ان کے حقوق پہنچاؤ۔

جو کوئی اپنے رشتہ داروں سے خیر خواہی کرتا ہے محبت سے پیش آتا ہے اور دکھ درد بانٹتا ہے ایسے لوگ پورے خاندان میں ہر د عزیز ہوتے ہیں اور جس معاشرے میں تعلقات کی اہمیت موجود ہو ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے والے ہوں خاندان کے درمیان محبتیں ہوں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والے ہوں وہ معاشرہ امن و امان کا گہوارہ اور اخوت و بھائی چارگی کا آنگن ہوتا ہے اور ایسا معاشرہ قابل رشک سمجھا جاتا ہے۔

آپ اس بنیادی معاشرتی پہلو کی اہمیت کو ذہن میں بٹھا کر یہ سوچیں کہ میرے اور آپ کے رشتہ دار سے صلہ رحمی کا اتنا اہتمام ہے تو محسن انسانیت رحمت اللعالمین سرکارِ دو عالم کے رشتوں کا تقدس ہمارے رشتوں سے کہیں بلند ہیں اس لئے کہ دینِ فطرت کی تعلیم ہے کہ

”مومنوں کے لئے حضور ﷺ کی ذات ان کے جان مال اور اولاد سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔“

اور یہ مسلمہ اور فطری بات ہے کہ انسان کو جس سے بھی محبت و عشق ہوتا ہے بالکل اسی طرح محبوب کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے یہاں تک کی محبوب کے درو یوار سے جیسا کہ حضرت امام مالکؒ نے دیار نبیؐ سے کبھی بھی دور ہونا پسند نہ کیا۔

یہ بات غیر منطقی ہے کہ حضور سے محبت کا دعویٰ رکھے لیکن آل رسول سے متعلق ذہن میں فتور ہو یا یہ کہ حضور سے دعویٰ محبت ہو اور حضور ﷺ کے محبوبین و عاشقین صحابہ کے بارے میں دل تنگ ہو۔ اللہ ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچائے۔

غیروں کی عیاری اپنوں کی سادگی یا بے رخی:

حضور اکرم ﷺ نے اپنے اہل بیت کرام کے بارے میں پیش کوئی فرمائی تھی کہ میرے اہل بیت کو میرے بعد سخت مصعبتیں پیش آئیں گی تاریخ اسلام اس پیش کوئی کی صداقت سے بھری پڑتی ہے۔

آج کے دور میں اہل بیت کچھ زیادہ ہی مظلوم ہو گئے ہیں وہ اس طرح کہ جو اہل حق سمجھے جاتے ہیں ان کی

زبانیں ان کے قلم اہل بیت کے ذکر سے نا آشنا ان کے جلسے مجالس میں حضرات سادات اہل بیت کا تذکرہ ڈھونڈے سے نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ خوف ہے کہ کہیں ہم پر رافضیت کا طعنہ نہ پڑ جائے۔ یہ تقریباً طے کر لیا گیا ہے کہ اہل سنت کے ہاں تو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہی ذکر خیر ہوگا۔ اہل بیت کا ذکر تو نہیں کر سکتے بڑے بڑے لوگ ان کے فضائل سنانے سے جھجکتے ہیں۔

ناجائز قبضوں کا دور گزر رہا ہے۔ سادات کے ناموں اور عقیدت پر بھی غیروں کا قبضہ ہو گیا اور روحانی وارث ایسے نالائق ہو گئے ہیں کہ قبضہ چھڑانا تو دور کی بات ہے اپنا کہنا بھی ان سے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ صورت حال کتنا کرناک ہے۔ سادات کرام کے فضائل و تعلیمات مبارکہ کو لوگوں نے جموئی اور سیاسی مقاصد کے تحت اندھی عقیدت کے دیبہ پردوں میں چھپا دی ہیں۔ ہمیں اپنی منافقانہ روش ترک کر کے ان کے سچے تعلیمات کردار اور فضائل کو بیان کرنا ہوگا تمام طبقات اہل علم اہل قلم اور صاحبان مسند و ارشاد کے ذمہ یہ کام ہے۔



نام و نسب

آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے اور والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی ثابت ہے۔ انہی سعادت مند حضرت ثابت والد امام اعظم کیلئے اور ان کے اولاد کیلئے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے برکت کی دعا فرمائی جب یہ اپنے والد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب کا لقب جو مشہور ہوا وہ امام اعظم ہے یہ لقب آپ کو صرف احناف کی طرف سے ہی نہیں بلکہ تمام مسالک والے ائمہ و سوانح نگاروں نے بھی کہا اور لکھا ہے اور سراج اللامۃ کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔

بعض سوانح نگاروں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بنی تیم کا مولیٰ لکھا ہے لیکن صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے آباؤ اجداد آزاد تھے کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ مشہور محدث محقق ناقد امام شیخ عبدالفتاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکبیر میں لکھا ہے جس کا نام عقد الجمان فی تاریخ اہل الزمان ہے میں امام اعظم کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد نے فرمایا۔

وقال اسماعیل بن حماد بن أبی حنیفہ فحن من ابناہ فارس الاحرار
واللہ ما وقع علینا رقی قطعاً

اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نسلاً فارسی اور آزاد ہیں اللہ کی قسم ہم پر کبھی غلامی کا دور نہیں آیا۔

اور امام صیرمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ سند کے ساتھ اسی بات کو نقل کیا ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا زوطی کابل کے رہنے والے تھے مسلمان ہوئے اور حضرت علیؑ سے شرف ملاقات حاصل کی اور کوفہ میں جو کہ اسلام کے دار الخلافہ ہونے کے علاوہ بڑے بڑے اکابر اور اہل علم صحابہ و کبار تابعین کا مسکن و موطن تھا آکر رہائش پذیر ہوئے۔

تاہم بعض سوانح نگاروں نے حضرت امام صاحب کو مولیٰ لکھا ہے تو مولیٰ ہونا کوئی نقص کی علامت نہیں کہ بڑے بڑے اہل اللہ آئمہ اور حضور کے قریبی لوگ بھی غلام تھے۔

تاریخ ولادت

80 ہجری میں کوفہ میں حضرت ثابت کے ہاں حضور کی بشارت پر مبنی حدیث ثریا کا سچا مصداق اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کی دعاؤں کی برکت و ثمرہ امام اعظم کی صورت میں متولد ہوئے۔ حضرت امام اعظم خلقتہ و فطرنا سعیداً واقع ہوئے تھے بچپن ہی سے علم کی طرف راغب ہوئے اور اپنے والد محترم کے ساتھ حج ادا فرمائے اور صحابہ کرام جن میں سے حضرت انس بن مالک خصوصی طور پر مذکور ہیں زیارت و روایت کی شروعات میں ریشمی کپڑوں کی تجارت ہی کا مشغلہ تھا لیکن حضرت امام شعمی کے نصیحت اور فطری نیک بختی سے مکمل طور پر علم کی طرف متوجہ ہوئے اور مسند ارشاد و اصلاح کو خوب خوب زینت بخشی اور اسی میں عمر گزار دی۔

امام صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے والے آئمہ کرام

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور تعریف اور توثیق میں آئمہ حدیث آئمہ فقہ آئمہ فن رجال کے اتنے اقوال ہیں کہ احصاء ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے بڑے بڑے علماء اور فن رجال کے ماہر آئمہ مؤرخین اور سوانح نگاروں نے کتنے ہی مستقل ضخیم تصانیف امام اعظم کے مناقب میں لکھی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن عبد البر ابن حجر اور ان کی طرح دیگر آئمہ کی ایک طویل فہرست ہے۔

برکت کی نیت سے ان چند عظیم ہستیوں کے مبارک ناموں کو تحریر کیا جاتا ہے جنہوں نے امام اعظم کے کیلئے اپنے اپنے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی ہیں۔

(1) امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی (استاذ)

(2) یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ (ہم عصر)

- (۳) امام دارالہجرۃ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ (استاذ و ہم عصر)
- (۴) امام ابو موسیٰ جعفر بن علی بن حسین بن علیؑ (استاذ و ہم عصر)
- (۵) امام حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ (استاذ)
- (۶) امام محمد بن ادریس الشافعی المظہبی رحمۃ اللہ علیہ (شاگردوں کے شاگرد)
- (۷) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (استاذ امام بخاری) (شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد)
- (۸) امام مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۹) امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۰) سلیمان بن مہران الأعمش رحمۃ اللہ علیہ (استاذ)
- (۱۱) امام شعبہ بن الحجاج البصری رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۲) امام سفیان الثوری الکوفی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۳) امام سفیان بن عیینہ الکوفی انکی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۴) امام مغیرہ بن المقسم الفصمی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۵) امام سعید بن عروبہ البصری رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۶) امام حماد بن زید البصری رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۷) امام قاضی شریک النخعی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۸) امام قاضی عبداللہ بن شبرمہ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۱۹) امام یحییٰ بن سعید القطان البصری رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۲۰) امام عبداللہ بن المبارک المروزی الکوفی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد خاص)
- (۲۱) الامام قاسم بن معین الکوفی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)
- (۲۲) الامام وکیع بن الجراح الکوفی رحمۃ اللہ علیہ (شاگرد)

ان کبار ائمہ کے علاوہ بھی بہت سے کبار ائمہ فقہاء محدثین اصحاب الرجال ہیں۔ امام الحافظ ابن عبد البر اللاندلسی نے اپنی مشہور کتاب الانتقاء میں ۶۸ بڑے سے بڑے ائمہ اور کبار مشائخ کے کلمات عقیدت ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کیے ہیں جن میں تحریر شدہ آئمہ کرام بھی ہیں جن میں بہت سے آپ کے اساتذہ ہیں اور بہت سے ہم عصر ہیں اور بہت سے مشائخ آپ کے شاگرد ہیں۔ جن کا ذکر ہوا وہ آئمہ متقدمین میں سے ہیں اور متاخرین کو بھی شامل کریں تو ان کے ناموں اور تاثرات پر ضخیم تصنیفات وجود میں آسکتی ہیں۔

خاندان نبوت سے تعلقات

تعلقات کی ابتداء

امام اعظم کے جد امجد نعمان بن مرزبان الزوطی کابل کے اعیان و اشراف میں سے بڑے صاحب فہم و فراست واقع ہوئے تھے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت ہی میں مشرف بہ اسلام ہوئے اور کوفہ منتقل ہوئے۔ حضرت امام صاحب کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے ان کے والد حضرت ثابت کو حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت امیر المؤمنین نے ان کیلئے اور ان کے اولاد کیلئے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا ہے۔

امام حافظ قاضی ابی عبد اللہ الصمیری نے اپنے تصنیف ”انخبار ابی حنیفہ واصحابہ“ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں۔

أنا اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان ولد جدی فی سنة ثمانین، وذهب ثابت فی سنة إلی علی ابن ابی طالب و هو صغیر و

دعاه بالبركة فيه و في ذريته و نحن نرجوا من الله أن يكون قد إ
 ستجاب الله ذلك لعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه فينا. قال
 النعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى إلی علی بن أبي
 طالب الفالودج في يوم نيروز و قيل كان ذلك في المهرجان فقال:
 مهرجوناً كل يوم ۱۰

ترجمہ: حضرت امام اعظم کے پوتے اسماعیل اپنے دادا سے ان کے دادا اور والد ثابت
 کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کے والد
 ثابت کو حضرت علی کے پاس لے جایا گیا جب آپ چھوٹے تھے تو ”حضرت علی نے ان
 کیلئے اور ان کے ذریت کیلئے برکت کی دعا کی“ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے
 ذات سے امید ہے کہ وہ دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوئی اور نعمان نے حضرت علی کو
 نیروز کے دن فالودہ کا ہدیہ پیش کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارا ہر دن ہی نیروز ہوتا
 ہے۔ بعض نے کہا مہرجان کے دن فالودہ پیش کیا تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارا
 ہر دن مہرجان ہوتا ہے۔

گویا یہیں سے ہی اس سعید خاندان کی خاندان نبوت سے عقیدت اور خاندانی تعلقات کا باہر برکت اور مستحکم
 آغاز ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور روحانی، علمی اور سیاسی قربتوں میں اضافہ اور
 مضبوطی پیدا کرتی گئی۔

خاندان نبوت سے کسب علوم

خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اور امام حیمری اخبار ابی حنیفہ میں رقمطراز ہیں کہ
 ایک دفعہ عباسی خلیفہ منصور نے امام اعظم سے سوال کیا کہ آپ نے علم کن سے حاصل کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ کے تلامذہ سے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے اور

شاگردان علیؑ سے اور انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے اور حضرت امام اعظمؑ قضا یا میں
 عموماً حضرت علی المرتضیٰ کے قضا یا پر عمل کرتے تھے ۱۔
 آخر کیوں نہ ہو کہ زباں نبوت سے سیدنا علی المرتضیٰ کیلئے قضی اور باب العلم کا فقہیم
 المرتبت لقب نصیب ہوا۔

امام صاحب کی حضرت علیؑ سے روایات

چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے مجموعہ احادیث ”جامع المسانید“ للبخاری میں آپ کی سیدنا علی المرتضیٰ
 سے مروی مرفوع و موقوف روایات کی تعداد کم و بیش ۵۸ ہیں اور امام محمد بن الحسن کی کتاب الآثار میں آپ کی حضرت
 علیؑ سے ۲۶ روایات موجود ہیں۔ بعض سوانح نگاروں نے بزبان سیدنا علی المرتضیٰ حضرت امام اعظم کی بشارت بھی نقل کی۔

مشاجرات میں سیدنا علی المرتضیٰ مجتہد مصیب

امام اعظم کے رائے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے جو لڑائیاں لڑی تھیں۔ ان میں حق و صواب حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ کی جانب تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مخالفین کی کوئی تاویل ان کی نگاہ میں قابل تسلیم نہ تھی جیسا کہ ان کو
 برا بھلا کہنے کیلئے کوئی جواز نہ تھا۔ چنانچہ امام الموفق انکی اپنے کتاب مناقب ابی حنیفہ میں امام صاحب کا ارشاد نقل
 کرتے ہیں۔

قال ما قاتل أحدنا إلا وعلی أُولی بالحق منه ولولا ما سار علی فیہم
 ما علم أحدنا کیف السیرة فی المسلمین ۲۔

ترجمہ: فرمایا حضرت علی سے جس کسی نے لڑائی کی ہے حق علی کے طرف رہا اگر حضرت
 علی یہ سب کچھ رو بہ عمل نہ لاتے تو لوگوں کو ایسے مسائل کا حل ہی نہ ملتا

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

لا شک أن امیر المؤمنین علینا ! نما قاتل طلحة والزبیر بعد أن

بايعاء وخالفاء ۷

بلاشبہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ نے اس وقت ان دونوں سے لڑائی لڑی تھی

جب کہ انہوں نے بیعت کے بعد ان کی مخالفت کی۔

ایک اور موقع پر آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ یوم جمل کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں تو فرمایا۔

فقال سار علیٰ فیہ بالعدل وأهو علم المسلمین السنة فی قتال

اهل البغی ۸

حضرت علی کا رویہ اس میں مبنی بر انصاف تھا وہ سب مسلمانوں سے زیادہ اس

حقیقت سے آگاہ تھے کہ اہل یعنی سے حرب و پیکار کا اسلامی نظریہ کیا ہے۔

اور اہل السنۃ الجماعۃ کا متفقہ عقیدہ یہی ہے جیسا کہ آئمہ نے بیان بھی کیا ہے کہ مشاجرات میں صواب سیدنا

علی المرتضیٰ کی طرف تھا لیکن ان کے مخالفین کے بارے میں انگشت نمائی بھی ناجائز ہے کہ ان کی نیت اخلاص پر مبنی تھی

لیکن اجتہاد میں صواب سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف رہا۔

حضرت امام اعظم جب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئیوالے لڑائیوں میں اتنا صاف اور قطعی نکتہ نظر رکھتے

اور اس کا برملا اظہار کرتے تھے تو بعد کے جبارہ حکمرانوں جن کے دور کا خود مشاہدہ کیا ان کے نلطیوں پر تکلیف و اصلاح

سے کب چوکتے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ جذبہ ہی ان کے اور وقت کے جبار حکمرانوں میں کھچاؤ اور کشمکش کا

بنیادی اور اہم سبب تھا۔

سیدنا علی المرتضیٰ کا درجہ فضیلت

خاتما، راشدین کے درجات فضیلت کے بارے میں آپ کی رائے امام کروری نقل کرتے ہیں۔

إنہ کان یفضل الشیخین — ثم اختلفوا فقال أقلہم وہی رواۃ

عن الامام علی " ثم عثمان وقال اکثرہم عثمان ثم علی و هو

الأصح فی مذهب الامام ثم العشرۃ المبشرۃ ثم اهل بدر ۹

آپ شیخین (ابوبکر و عمر) کو فضیلت دیتے تھے۔ پھر اختلاف ہوا کہ حضرت

عثمان و علیؓ میں کون افضل ہیں تو قلیل لوگوں نے حضرت علیؓ کو فضیلت دی اور امام صاحب سے بھی یہ روایت نقل ہے لیکن اکثر سیدنا عثمان غنیؓ کو فضیلت دیتے ہیں اور یہی امام اعظم کا صحیح مسلک ہے پھر عشرہ مبشرہ پھر اہل بدر۔

اتباع علی کرم اللہ وجہہ

جیسا کہ گزر چکا کہ امام صاحب کے ہاں قضا یا علی کرم اللہ وجہہ کا کتنا مقام تھا آپ اکثر اجتہادی احکام و مسائل میں سیدنا علیؓ کی روایت اور رائے کو ترجیح دیتے تھے بطور مثال دو روایتیں لکھی جاتی ہیں۔

۱۔ ”امام اعظم عید کے بعد نوافل ادا نہیں کرتے تھے لیکن ایک دن آپ نے چار نوافل ادا کیے پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت پہنچی ہے کہ آپ عید کے بعد چار نوافل ادا کیا کرتے تھے اس لیے میں بھی کرتا ہوں۔“

۲۔ ایک اور روایت ہے کہ ”حضرت وکیع بن جراح نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا چار ہزار اور اس سے کچھ کم نفقہ ہے۔ اس ارشاد گرامی کی وجہ سے چالیس سال سے چار ہزار درہم سے زائد کا مالک نہیں ہوا ہوں۔ اگر محتاجی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے پاس ایک درہم بھی نہ رکھتا۔“

معلوم ہونا چاہیے کہ امام اعظم شروع زندگی سے ہی سیدنا علی المرتضیٰ کی اتباع ہر شعبہ زندگی میں کرتے رہے اور باب العلم کے علمی درباری بڑے چاؤ اور عقیدت سے پوری زندگی کرتے رہے۔ اگر نقل کیا جائے تو حضرت علیؓ سے منقول روایات امام صاحب کے اتنے ہیں کہ اگر کتابوں میں بکھری ہوئی روایات کو جمع کیا جاوے تو ایک ضخیم کتاب وجود میں آئے۔

سیدنا علی المرتضیٰ کا دفاع

بنو امیہ کے دور حکومت میں سادات علویہ پر قافیہ زمین باوجود اپنے وسعتوں کے بہت تنگ تھی سرعام برا بھلا کہا جاتا اور سرعام منبروں سے بھی سب و شتم ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس کو بند کر دیا۔ حضرت معاویہؓ

کے بعد انہی کے دور خلافت میں آل رسول ﷺ کو سکون و امن نصیب ہوا لیکن ان کے بعد پھر وہی حالت بلکہ اس سے بھی بدتر حالت ہو گئی۔ یہاں تک کہ مجالس و محافل و خطبات میں حضرت علیؑ اور ان کے اولاد اطہار کا نام لینا بھی جرم اور بغاوت متصور ہوتا تھا۔ بڑے ائمہ محدثین آپ کا یعنی حضرت علیؑ کا نام نہ لیتے بلکہ قال الشیخ کہہ کر پکارتے اور روایت بیان کرتے حضرت رأس القضاة حسن بصری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جب حضرت علیؑ کا نام لینا ہوتا تو ابو زینب کہہ کر روایت نقل کرتے امام کردری نقل کرتے ہیں۔

وکان بنو أمیة لا یذکر عندہم علی وکل من ذکرہ عندہم
عاقبہ و کانت العلامة فیہ أن یقولو "قال الشیخ" کذا وکان
الحسن البصری إذا ذکرہ قال أبو زینب کذا۔

بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت علیؑ کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا جو بھی ان کا نام لیتا اس کو تکلیف پہنچائی جاتی اور اہل علم ان کا نام لینے کے بجائے بطور علامت الشیخ کہہ کر نام لیتے تھے اور حضرت حسن بصری آپ کو ابو زینب کہہ کر نام لیتے تھے۔

ایسے دہشت زدہ ماحول میں حکمرانوں کے دربار میں سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ کا نام لینا اور ان کی تعریف و تائید کرنا سیدنا امام اعظم ہی کا خاصہ ہے۔

امام کردری مناقب میں واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

قال کان بنو أمیہ یطلبون الفقہاء للافتاء فدعانی واحد منہم
فقال یا نعمان ما تقول أنت فاسترجعت وقلت هذا أول
مادعیة کیف لا أقول ما أدين بہ و قولی فیہا قول علی و بنو
امیة لا یذکر عندہم علی ولا یفتون برأیہ فقلت — قال من
قال هذا قلت علی ابن ابی طالب — ذکر محمد بن مقاتل
أنہ ابن ہبیرة زاد فیہ و قال بأی القولین تأخذ أنت قال قلت
عمر عندی أفضل من علی لکن برأی علی آخذ۔

امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے کہ بنو امیہ کے حکمران و عمال فقہاء کو فتویٰ کے لیے بلا تے چنانچہ مجھے بھی بلایا..... اور مجھے کہا اے نعمان آپ کا اس بارے کیا رائے ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے انا اللہ پڑھا کیونکہ میری رائے ان کے رائے کے خلاف تھی اور اس مسئلہ میں میں حضرت علیؑ کے رائے سے متفق تھا اور بنو امیہ کے ہاں حضرت علیؑ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے مذہب کے موافق فتویٰ دیا جاتا تھا تو میں نے جب فتویٰ دیا تو پوچھا کہ یہ کس کا قول و رائے ہے تو میں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے اور محمد بن مقاتل کہتے ہیں کہ وہ بنو امیہ کا گورنر ابن ہبیرہ تھا اور یہ بھی کہا کہ ابن ہبیرہ نے حضرت امام اعظم سے سوال کیا کہ اس مسئلہ میں (طلاق و عدت کا مسئلہ تھا) آپ کس رائے کو لیتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک سیدنا عمرؓ حضرت علی سے افضل ہیں لیکن میں حضرت علی کے قول کو پسند کرتا اور لیتا ہوں۔

حضرت امام صاحب کی جرأت و ذہانت

مشہور خارجی سرغنہ ضحاک جس نے بہت فساد پھیلایا روایت کے مطابق اس نے کوفہ پر بھی قبضہ کر لیا تو امام اعظم ہی تھے جنہوں نے اپنی خدا داد ذہانت و شجاعت سے اس کا سامنا اور مجاہدہ کیا اور اہل کوفہ کی خلاصی کرائی۔ آپ کی اور خارجی کے درمیان ہونے والی مختصر گفتگو نقل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ خوارج وہ لوگ ہیں جو حضرت علیؑ کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہیں اور جو بھی ان کی حمایت و دفاع کرے اس کو بھی مرتد کہتے ہیں اور جو بھی اہل بیت سے معاذ اللہ بے زار ہیں وہ خوارج میں شامل ہیں۔

ضحاک کوفہ میں داخل ہوا اس نے امام اعظم سے کہا تو پھر آپ نے کہا کس چیز

سے تو بہ کروں اس نے کہا حکمیں کے تجویز کرنے سے امام صاحب نے فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو یا مناظرہ کرو گے اس نے کہا مناظرہ کریں گے۔ امام صاحب نے فرمایا اگر کسی بات پر ہم اور تم میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا ضحاک کہنے لگا تم جس کو چاہو مقرر کرو امام صاحب نے ضحاک کے ساتھیوں میں سے ایک کو کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور جس بات میں ہم دونوں میں اختلاف ہو تم فیصلہ کرنا پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو ضحاک نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی۔ آپ نے فرمایا قد جَوَزْتَ النِّحْكَيمَ "یعنی تم نے تحکیم کو تسلیم کر لیا۔ اس پر ضحاک لا جواب ہو کر چلا گیا۔"

یاد رکھئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے ان خارجیوں کو تہ تیغ کر دیا تھا امام موفق کی نے قدرے تفصیل سے ضحاک کے ساتھ ہونے والے مناظرے کے احوال بیان کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سیدنا امام اعظم نے غیر موافق اور پریشان کن حالات میں حکمران کے سامنے اور شوریدہ سرفتنہ پروروں کے درمیان بھی حضرت علی المرتضیٰ اور تمام اہل بیت کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت جو کہ سچے ایمان کا تقاضا ہے اس کا کھل کر اظہار کیا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت سیدنا حسنؑ کو اور پھر سیدنا حسنؑ کے بعد سیدنا معاویہؓ کے درمیان مصالحت کے بعد سیدنا امیر معاویہؓ کی خلافت کو ہی برحق جانتے تھے۔

خاندان نبوت سے رشتہ شاگردی

حضرت امام اعظم اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سیاسی تعلقات کے علاوہ علمی اور روحانی تعلق بھی رکھتے تھے جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے بہت سے روایات مروی ہیں جن میں بہت سی روایات انہی اہل بیت کے افراد سے ہیں۔

حضرت زیدؓ سے علمی تعلق

حضرت سیدنا زید بن علی شہیدؓ سے بھی آپ کا علمی تعلق و روابط تھا اور امام شہیدؓ آپ کے کبار مشائخ میں

سے شمار ہوتے ہیں اور حضرت زیدؓ مختلف اسلامی علوم و فنون میں ماہر کامل تھے۔ آپ قرأت کے امام علوم قرآن نے ماہر فقہ اور عقائد کے امام تھے۔

ایک روایت کے مطابق امام صاحب حضرت زید کے حلقہ درس میں دو سال رہے چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں۔

شاهدت زید بن علی کما شاهدت أهلة فما رأيت في زمانه
أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جواباً ولا أبين قولاً — لقد كان
منقطع القرين۔

میں نے حضرت زید بن علی کو دیکھا جیسے ان کے خاندان کے دوسرے حضرات کے مشاہدے کا موقع ملا ہے۔ میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقیہ آدمی اور کسی کو نہیں پایا اور ان جیسا حاضر جواب اور واضح صاف گفتگو کرنے والا آدمی اس عہد میں مجھے کوئی نہ ملا..... درحقیقت ان کے جوڑ کا آدمی اس زمانے میں نہ تھا۔

اس فرمان سے جہاں یہ بات مترشح ہے وہاں یہ بھی کہ آپ نے بہت سے مشائخ اہل بیت سے کس فیض کیا اور خوب کیا کہ ان کی ایک ایک ادا یاد رکھی اور آپ کا سیدنا زید کے ساتھ تحریری رابطہ بھی مسلسل رہتا تھا جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ مشہور محقق ابو زہرہ رقمطراز ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے علوم کن سے حاصل کی آپ نے سائل کے جواب میں جو فرمایا بدایت میں ہے۔

وقد قال ابو حنیفة رضی اللہ عنہ لمن سئله عن تلقی علمہ
فقال 'كنت في معدن العلم ولزمت فقیهاً من فقہائهم — أن
ذالك بالنسبة لزيد رضی اللہ عنہ فقد كان في معدن العلم۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا سائل کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا ”میں علوم کے کان یعنی مرکز میں تھا اور وہاں کے فقہاء میں

ایک فقہیہ کے درس کا التزام کیا (ابوزہرہ کہتے ہیں) اس فقہیہ سے
مراد زید بن علی ہیں اور وہ اُس وقت مرکز علوم مدینہ میں ہی تھے۔

اس کے علاوہ حضرت امام زید کئی مرتبہ کوفہ پہنچے امام ابوحنیفہ نے ان زرین مواقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں
دیا بلکہ مختلف مجلسوں میں علماء کی جماعت کے اور علیحدگی میں بھی حضرت زید سے کسب فیوض فرمایا۔
امام ابوزہرہ کی مشہور کتاب الامام زید میں ہے کہ

كان الإمام زيد من أكثوال البيت فلاميد — وانقل إلى
الكوفة وذاكر من بها من الفقهاء كعبد الرحمن بن أبي ليلى
وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت وسفيان الثوري

دوسری روایت ہے

رأى أبي حنيفة الذي تلمذ للإمام عند ما جاء بالكوفة
علماء اهل بيت في من من حضرت زید کے سب سے زیادہ شاگرد ہیں
حضرت زید جب کوفہ تشریف لائے تو وہاں کے فقہاء سے مذاکرہ فرمایا جن
میں عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ اور امام ابوحنیفہ اور سفیان الثوری تھے اور امام
ابوحنیفہ جنہوں نے امام زید کی شاگردی کی جب وہ کوفہ آئے

سیدنا محمد بن علی الباقرؑ سے علمی تعلق

حضرت امام باقرؑ حضرت زین العابدینؑ کے بیٹے اور حضرت زید بن علیؑ کے باپ شریک بھائی ہیں۔ مدینہ
میں ہی قیام پذیر رہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے اہل علم اور مرجع خلائق تھے۔ حضرت امام اعظمؑ کو بھی آپ سے
علمی و روحانی فیض حاصل کرنے کا خوب موقع ملا چنانچہ آپ کے تمام سوانح نگاروں نے امام باقرؑ کو آپ کے کبار
مشاخ میں ذکر کیا ہے۔

امام ذہبیؒ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام محمد الباقرؑ کو امام صاحب کا استاد و شیخ لکھا ہے اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ
نے امام باقرؑ سے روایتیں بھی کی ہیں۔

حدث عن عطاء و نافع و محمد الباقر

آپ نے حضرت عطاء بن ابی رباح حضرت نافع اور حضرت محمد باقر سے
حدیث بیان کی ہے۔

حضرت امام ذہبی کے ارشاد کے موافق امام صاحب سے مروی احادیث کی تعداد جامع المسانید اور کتاب
الآثار میں امام صاحب نے کم و بیش ۹ روایات سیدنا امام باقر سے لی ہیں جن میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے۔
امام باقر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سیدنا عمر فاروق کے جنازہ کے پاس
گئے حضرت عمر پر چادر پڑی ہوئی تھی آپ نے کہا کوئی شخص ایسا نہیں کہ میں چاہوں کہ
اس کا اعمال نامہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں بجز اس چادر پوش کے۔

حضرت امام اعظم نے اپنے فطری اور خداداد صلاحیتوں کے وجہ سے فقہ میں بہت شہرت پائی چنانچہ آپ کی
شہرت حرین میں بھی پہنچ چکی تھی اور وہ بھی جوانی میں کیونکہ سیدنا امام باقر ۱۱۲ھ میں انتقال فرما گئے اور آپ کی
ملاقات اس سے پہلے ہی ہوئی ہوگی چنانچہ جب سیدنا امام اعظم حرین کی حاضری اور حصول علم کے لیے تشریف لے
گئے اور امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے چونکہ آپ کی شہرت سے حسد کی وجہ سے بعض نامہمجھوں نے یہ بات
مشہور کر دی تھی کہ آپ قیاس کے مقابلہ میں حدیث کو چھوڑتے ہیں چنانچہ امام اعظم کی اور امام باقر کی پہلی ملاقات
اور اس میں ہونے والی گفتگو اس طرح ہوئی۔ ملاقات کا یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ سلام و تحیہ کے بعد امام باقر
نے فرمایا کہ

آپ نے میرے نانا کے دین اور ان کی احادیث کو قیاس سے بدل ڈالا۔

امام اعظم: معاذ اللہ

امام باقر: آپ نے ایسا کیا ہے

امام اعظم: تشریف رکھئے تاکہ میں بھی مؤدبانہ طریق بیٹھ سکوں کیونکہ میرے نزدیک آپ اسی

طرح لائق احترام ہیں جیسے آپ کے نانا صحابہ کے نظر میں۔

جب جناب امام باقر تشریف فرما ہوئے تو امام ابوحنیفہ بھی زانوائے ادب تہہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔
پھر مزید گفتگو اس طرح ہوئی۔

امام اعظم: میں آپ سے تین باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں ان کا جواب مرحمت فرمائیے۔
کیا مرد کمزور ہے یا عورت؟

امام باقر: عورت

امام اعظم: جہاد میں (یعنی غنیمت میں) عورت کو کیا حصہ ملتا ہے۔

امام باقر: مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ۔

امام اعظم: یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے اگر میں نے ان کے دین کو بدل دیا ہوتا تو قیاس کے مطابق آدمی کو ایک حصہ دیتا اور عورت کو وہ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے

امام اعظم: اچھا فرمائیے نماز بہتر ہے یا روزہ

امام باقر: نماز

امام اعظم: یہ آپ کے نانا کا ارشاد ہے اگر میں نے ان کا قول تبدیل کر دیا ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ روزہ کے بجائے فوت شدہ نمازیں ادا کرے۔

امام اعظم: اچھا یہ فرمائیے کہ بول زیادہ نجس ہے یا نطفہ

امام باقر: بول یعنی پیشاب زیادہ نجس ہے۔

امام اعظم: اگر میں نے قیاس سے آپ کے نانا کے دین کو بدل دیا ہوتا تو میں فتویٰ دیتا کہ بول سے غسل کرنا چاہیے اور نطفہ سے وضو معاذ اللہ بھلا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔

چنانچہ آپ کی گفتگو سن کر امام باقر آپ سے اٹھ کر بغل گیر ہوئے اور آپ کے چہرے پر بوسہ دیا اور آپ

کی تکریم بجالائے۔

اس واقعہ سے تین باتیں سمجھ میں آئیں کہ حضور ﷺ کے بعد آپ کے اولاد اطہار میں سے جس سے ملاقات ہو تو ان کی تعظیم و تکریم عقیدت و محبت اتنا کیا جائے جتنا امام صاحب نے فرمایا اور اس والہانہ انداز سے پیش آیا جائے جیسا کہ صحابہ کرام آنحضرتؐ سے پیش آتے دوسری بات کہ مشائخ اساتذہ شیخ طریقت اصلاح کے لیے جتنی سختی اور تلخی سے پیش آئیں اتنی ہی عقیدت اور احترام سے پیش آئیں۔ اطاعت اور فرمانبرداری زیادہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ دین کے بارے میں انتہائی حساس ہوں ہر قسم کے شکوک و شبہات کو معقول اور محکم انداز سے دور کیا جائے اور ذرہ برابر بھی مدافعت سے کام نہ لیا جائے۔ اصحاب مناقب نے اور بھی روایات نقل کی ہیں جن سے امام صاحب کی امام باقرؑ سے ملاقات اور کسب فیض اور امام باقرؑ کے ہاں امام صاحب کی قدر و منزلت کا اندازہ کا اندازہ ہوتا ہے ایک مرتبہ امام باقرؑ نے امام صاحب سے مجلس میں فرمایا کہ کوئی سوالات ہیں تو کرو چنانچہ آپ نے کئی سوالات کیے جن کا انہوں نے بصیرت آفریں جوابات دینے مجلس کے بعد امام باقرؑ نے امام اعظمؑ کے بارے میں فرمایا کہ امام ابوحنیفہؒ کے پاس ظاہری علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے پاس باطنی اور روحانی علوم کے خزانے ہیں چنانچہ امام صاحب نے خود امام باقرؑ سے ان کے بعد امام زید سے ان کے بعد امام جعفرؑ اور امام عبداللہ بن حسنؑ سے اور آخر عمر میں امام موسیٰ بن جعفرؑ سے روحانی علوم معارف حاصل کیے۔

فاروق اعظمؓ اہل بیت کے نظر میں

اور ایک ملاقات میں امام صاحب کے حضرت عمرؓ کے بارے میں سوال پر امام باقرؑ نے فرمایا۔

أولست تعلم أن علياً زوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر
بن الخطاب وهل تدري من هي — جدتها خديجة سيدة نساء
أهل الجنة و جدّها رسول الله ﷺ خاتم النبیین و
سید المرسلین و رسول رب العالمین و أخوها الحسن والحسین
سید اشباب أهل الجنة و أمها فاطمة سيدة نساء العالمین لـ
کیا آپ نہیں جانتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیوی ام کلثوم بنت فاطمہؓ کا

نوح کا حضرت عمرؓ سے فرمایا اور کیا تو جانتا ہے کہ وہ یعنی ام کلثومؓ کون ہے ان کی نانی سیدہ خدیجہؓ ہیں جو کہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں اور ان کے نانا حضرت رسول اکرم ﷺ ہیں جو خاتم النبیین سید المرسلین ہیں اور ان کے بھائی حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان کی ماں سیدہ فاطمہؓ ہیں جو تمام جہانوں کے عورتوں کے سردار ہیں

خود امام باقر نے حضرت امام اعظم کے بارے میں جو تاریخی کلمات ارشاد فرمائے ہیں وہ کئی کبار ائمہ نے نقل کیے ہیں جیسا کہ حافظ ابن عبدالبر اندلسی مالکی اپنی مشہور مستند کتاب میں نقل کی ہے راوی کہتے ہیں۔

كُنَّا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَسَأَلَهُ
عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ لَنَا
أَبُو جَعْفَرٍ مَا أَحْسَنَ هَدْيَهُ وَسَمْتَهُ وَمَا أَكْثَرَ فَتْهَهُ ۚ

ہم حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی (الباقر) کے پاس بیٹھے تھے کہ امام ابو حنیفہ تشریف لائے اور کئی مسائل کے بارے میں پوچھا امام باقر نے ان سب کا جواب دیا پھر امام ابو حنیفہ تشریف لے گئے تو امام ابو جعفر نے ہم سے کہا کہ ”کیا ہی اچھا ان کا طریقہ اور روش ہے اور کیا ہی زیادہ ہے ان کی فقہ“۔

امام ابو زہرہ لکھتے ہیں:

وَكُلُّ هَوْلَاءِ أُمَّةٍ أَخَذَ عَنْهُمْ فَتَهَاءَ الْعَصْرِ وَأُمَّةِ الْفَقْهِ فَعَنْ مُحَمَّدِ
الْبَاقِرِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَكِتَابَ الْآثَارِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ الرِّوَايَاتُ
الْكَثِيرَةُ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِهِ جَعْفَرٍ

ان ائمہ اہل بیت سے بہت سے فقہاء عصر نے کسب علم کیا بالخصوص امام محمد الباقر سے امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا آپ کے کتاب الآثار میں امام محمد الباقر اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق دونوں سے بہت روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو موسیٰ جعفر بن محمد الصادق

سیدنا امام باقرؑ کی طرح ان کے خلف الرشید بیٹے سیدنا امام جعفر صادق سے بھی امام ابو حنیفہ نے علمی و روحانی روابط استوار کیے اور دونوں حضرات ایک ہی سن و سال کے تھے۔ دونوں ہی ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے لیکن سیدنا امام جعفر صادق کی وفات ۱۴۸ھ میں امام صاحب سے دو سال قبل ہوئی امام اعظم ان کے شان میں فرمایا کرتے تھے۔

والله ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق ۱

میں نے جعفر سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔

ابوالمؤید الخوارزمی نے جامع المسانید میں امام اعظم کی یہ روایت نقل کی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا۔
 ”میں نے امام جعفر صادقؑ کو اختلاف فقہاء میں سب سے زیادہ اعلیٰ دیکھا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ انہی کو فقیہ کا ماہر دیکھا۔“

اور جامع المسانید میں امام صاحب کی یہ روایت بھی ہے جس میں فرماتے ہیں۔

”ایک دفعہ ابو جعفر منصور نے کہا اے ابو حنیفہ لوگ جعفر بن محمد پر بڑے فریفتہ ہیں ان کے لیے کچھ مشکل مسائل تیار کیجئے۔ آپ نے ان کے لیے چالیس مسائل تلاش کیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میں حیرہ کے شہر میں منصور کے دربار میں آیا تو حضرت جعفر صادق اس کے دائیں جانب تشریف فرما تھے میں ان سے اس قدر مرعوب ہوا کہ منصور سے بھی نہ ہوا تھا میں نے سلام کیا انہوں نے ہنسنے کا اشارہ کیا میں بیٹھ گیا۔ منصور نے حضرت جعفر صادق سے مخاطب ہو کر کہا ابو عبد اللہ یہ ابو حنیفہ ہیں جعفر صادق نے فرمایا اچھا منصور نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا ابو عبد اللہ سے وہ پوچھنے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتا جاتا اور آپ جواب دیتے جاتے اور فرماتے جاتے تم عراقی

لوگ یوں کہتے ہو اہل مدینہ کا یہ قول ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کبھی ہمارے موافق فتویٰ دیتے اور کبھی ان کے اور کبھی ہماری مخالفت کرنے لگتے یہاں تک کہ چالیس مسائل ختم ہوئے کوئی مسئلہ باقی نہ چھوڑا امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے امام جعفر کو اختلاف فقہا میں سب سے زیادہ اعلم دیکھا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ انہی کو فقہ کا ماہر دیکھا اور فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلافات سے زیادہ واقف ہو۔“

واقعہ سے چند باتیں مترشح ہوتی ہیں پہلی یہ کہ امام صاحب کو منصور نے طلب کیا تا کہ امام جعفر سے مباحثہ ہو لیکن امام صاحب اپنے فطری سعادت کے وجہ سے دیکھتے ہی ان کی سیادت اور نقاہت کے قائل ہوئے یہ سادات کی جلالت شان ہے کہ وقت کے بڑے حاکم مطلق العنان کے موجودگی میں لوگ ان سے مرعوب ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ منصور کی سادات دشمنی سے قبل کا واقعہ ہے تیسری بات یہ کہ اپنے اساتذہ سے علمی مباحثہ علماء کے ہاں محمود ہے فن رجال کے مصنفین نے اور سوانح نگاروں نے باوجود ہم عمری کے امام جعفر صادق کو امام صاحب کا استاذ قرار دیا ہے۔

جامع المسانید میں امام صاحب نے امام جعفر سے 7 سات روایتیں کی ہیں۔ امام صاحب نے حرین کے قیام کے دوران اور کوفہ میں امام جعفر کے آمد کے موقع پر امام عالی مقام سے کسب فیض کیا۔ کئی سال ان کے دامن علم و معرفت سے وابستہ رہے اور ان سے ظاہری و باطنی ہر دو علوم میں تبحر ہوئے۔

امام صاحب کو افتاء و ارشاد کی اجازت

امام ابو یوسف کی روایت جسے امام کردری نے نقل کی ہے اس طرح ہے۔

عن أبي يوسف كان الامام يفتي في المسجد الحرام إذ وقف عليه الامام جعفر بن محمد الباقر فضمن الامام فقال يا ابن رسول الله لو علمت أول ما وقعت لما قعدت وأنت قائم فقال

اجلس فافت الناس فعلی هذا أدركت آباءتی لـ

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں فتویٰ دے رہے تھے وہاں جعفر بن محمد الباقر تشریف لائے اور لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے معلوم کر لیا کہ وہ آئے ہیں تو اٹھ کھڑے ہو گئے عرض کی اے ابن رسول اللہ ﷺ اگر آپ کے یہاں آنے یا کھڑے ہونے کا علم ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھتا نہ لوگوں سے گفتگو کرتا آپ نے فرمایا آپ بیٹھیے اور فتویٰ دیجئے۔ میں نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح بیٹھے لوگوں کو سمجھاتے دیکھا ہے۔

اس واقعہ سے امام صاحب کی امام جعفر سے قائم تعلق خاطر کا اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت امام صاحب کی تعظیم اور ان کے لیے امام جعفر کی تحسین و تائید کے کلمات اور اپنے آباؤ اجداد سے تشبیہ یہ وہ عظیم سند ہے جو صرف امام صاحب کے حصہ میں آئی۔

امام کردری ہی نے ایک اور روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں

”حضرت ابو عبد اللہ جعفر صادق ایک بار کوفہ میں تشریف لائے تو حضرت امام ابو حنیفہ ہمراہ تعظیم بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت امام جعفر صادق نے بھی آپ کو بڑے اعزاز و اکرام سے اپنے پاس بٹھایا لوگوں نے آپ سے دریافت کیا حضور یہ کون ہیں جس کی آپ اتنی تعظیم کر رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں جن کی فقہ اور دیانت نے دھوم مچا رکھی ہے اور آج علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔“

یہ واقعہ ان والہانہ تعلقات اور عقیدت کا مظہر ہے جو آپ کی اور اہلبیت کے درمیان تھی جس کا ہر دو فریق کو پورا پورا احساس تھا۔ امام جعفر صادق کا یہ ارشاد بھی تاریخ کے اوراق پر ثبت ہیں فرمایا۔

هذا أبو حنیفہ أفتہ أهل بلدہ

یہ ابو حنیفہ ہیں جو کہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

مولانا ابوالوفاء لاٰ فغانی کے ایک شاگرد نے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ طریقت میں امام جعفر صادقؑ کے مجاز اور خلیفہ ہیں اور پھر حضرت داؤد طائی امام صاحب کے مجاز و خلیفہ ہیں۔ امام صاحب سے یہ ارشاد منقول ہے جو کہ اڑید یہ کے مصنف نے بھی اپنی کتاب میں ان الفاظ کیا تھے نقل کی ہے۔ کہ یہ ان سالوں کی بات ہے جو امام صاحب نے حضرت جعفر کے خدمت میں کسب فیض میں صرف کیے۔

أما أبو حنيفة فقراً على جعفر بن محمد وكان يقول لولا السنن
(اللنن قضاهما نلميدا لجعفر) لهلك النعمان۔

پس ابو حنیفہ نے امام جعفر بن محمدؑ سے پڑھا ہے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دو سال (جو کہ جعفرؑ کے شاگردی میں صرف ہوئے ہیں) نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔

امام مناوی سمیت صوفیاء کے کئی سوانح نگار مصنفین نے امام صاحب کو تصوف و سلوک کے بڑے مشائخ میں شمار کیا ہے اور حضرت داؤد طائی جو کہ امام صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہیں ان کی شہرت ہی تصوف و سلوک سے ہے امام ابو زہرہؒ ابو حنیفہؒ میں آپ کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ولقد عُدَّ العلماء جعفرأ هذا من شيوخ أبي حنيفة وإن كان في

سنہ

تحقیق علماء محققین نے حضرت جعفر صادقؑ کو امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ میں شمار کیا ہے اگرچہ وہ ان کے ہم عمر ہیں۔

حضرت ابو محمد عبداللہ بن حسن بن حسن سے تعلق

حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ بن حسن بن حسن جو کہ حضرت سیدنا حسن کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام صاحب کو ان سے بھی روحانی علمی قلبی تعلق تھا آپ نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا تھا کئی ائمہ اور سوانح

نگاروں نے امام عبداللہ بن حسن کو امام صاحب کا استاذ و شیخ بیان کیا ہے۔ یہ ثقہ محدث اور صدوق تھے۔ امام مالک اور سفیان ثوری جیسے اکابر ان سے روایت کرنے والوں میں تھے وہ علماء کے نزدیک قابل احترام اور عابد شب زندہ دار تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی بڑی عزت کی عباسی خلافت کے شروع میں خلیفہ سفاح سے ملے تو وہ بھی تعظیم بجالایا اور ایک ہزار درہم عطیہ کیا۔ منصور کے عہد خلافت میں معاملہ دگرگوں ہو گیا وہ ان کے اہل و عیال سے بہت بری طرح پیش آیا منصور نے ان سب کو پابجولاں مدینہ سے ہاشمیہ بھیج دیا۔ یہ وہاں قید رہے اور اکثر افراد خاندان وہیں فوت ہوئے۔

منصور کے دور حکومت میں تمام علویوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئیں لیکن حضرت عبداللہ بن حسن اور ان کی اولاد و خاندان نے اس ضمن میں باقی علویوں کو پیچھے چھوڑا۔ منصور کے انہی افعال شنیعہ کے بنا پر امام صاحب اس سے شدید متنفر ہو کر شدید تکلیف چینی کرنے لگے تھے کیونکہ آپ علویوں کو بہت چاہتے تھے اور بہت سے علوی آپ کے استاد بھی رہ چکے تھے اور انہیں حضرت عبداللہ بن حسن سے خصوصی عقیدت تھی۔ یہ منصور کے قید میں ہی شہید ہو گئے۔ اسی سال ۱۴۵ھ کو ان کے دو عظیم اولعزم بیٹے محمد اور ابراہیم بھی منصور کی لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت امام صاحب کا حضرت عبداللہ بن حسن سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہا۔ امام ابو زہرہ اپنے مشہور تصنیف ”ابو حنیفہ“ میں مناقب ابی حنیفہ کی اور مناقب ابن بزاز کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ

وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ قَدْ تَلَمَذَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَنَاقِبِ — وَكَانَتْ لَهُ بَعْدَ اللَّهِ مَوَدَّةٌ خَاصَّةٌ لَهُ
ابو محمد عبداللہ بن الحسن بن الحسن جن سے حضرت امام ابو حنیفہ کو شرف تلمذ حاصل ہے جب کہ مناقب میں آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو حضرت عبداللہ بن حسن سے خصوصی محبت تھی

مذہب حنفی کے قبولیت میں اہل بیت کا اثر ہے

اور ”الامام زید“ میں ہے کہ حنفیت کے عالم میں شیوخ میں اہل بیت کی تاثیر کارفرما ہے۔

حسب القارى أن يعلم أن الصلة العلمية بين الأئمة أصحاب
المذاهب التي أنتشرت في الأمصار كانت قوية. إذ كانوا على
إتصال بأئمة آل البيت رضوان الله عليهم فأبو حنيفة كان على
إتصال بالأئمة محمد الباقر وإبنه جعفر الصادق وعلى إتصال
بالإمام زيد ومن حمل رسالته من بعده من أهل البيت مثل
الإمام عبد الله بن حسن الذي مات في حبس المنصور شهيداً
مظلوماً كما حمل أبو حنيفة من بعد (١)
أیک اور مقام پر لکھتے ہیں۔

وأخذ أيضاً عن عبد الله بن حسن وكانت له به صحبة.
قارى کو یہ معلوم ہونا چاہیے گا کہ اصحاب مذاہب اور ائمہ اصل بیت کے
درمیان علمی تعلق کا اثر مذاہب کے پھیلنے میں بہت بنیادی اور قوی ہے۔ پس
امام ابو حنیفہ کا علمی تعلق ائمہ اصل بیت میں سے محمد الباقر ان کے بیٹے جعفر
صادق اور امام زید بن علی اور ان کے بعد ان کے علوم کے علمبردار امام عبد اللہ
بن حسن سے خاص علمی تعلق تھا۔ عبد اللہ بن حسن وہی ہیں جنہوں نے منصور
کے قید میں مظلومانہ شہادت پائی جیسا کہ ان کے بعد ان کی طرح امام ابو حنیفہ
کو قید کیا گیا۔

اور امام ابو حنیفہ نے حضرت عبد اللہ بن حسن سے بھی علم حاصل کیا آپ کی ان
کے ساتھ بڑی صحبت رہی

امام موسیٰ کاظم سے تعلق

حضرت ابو علی موسیٰ بن جعفر اکاظم کے علم و فضل جو دو سخا غفور و رزہد و تقویٰ پر زمانہ شاہد ہے۔ آپ حضرت

امام اعظم کا بہت احترام اور عزت افزائی کرتے تھے امام صاحب کی قد و منزلت امام کاظم کے ہاں کتنی تھی۔ اس کا اندازہ اس روایت سے لگا سکتے ہیں۔

أورد الثقة في تصنيفه مناقب لأبي حنيفة رحمه الله فقال نظر
موسى ابن جعفر الصادق إلى أبي حنيفة فقال له أنت النعمان
فقال و كيف عرفتنى فقال قال الله تعالى سيماهم في وجوههم
من أثر السجود ۱

ایک ثقہ امام نے اپنی تصنیف مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ بن جعفر نے جب امام ابوحنیفہ کو پہلی بار دیکھا تو آپ سے فرمایا کیا تم ہی ابوحنیفہ ہو عرض کیا حضور مجھے ہی نعمان بن ثابت کہتے ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ کاظم سے پوچھا حضور آپ نے مجھے کیسے پہچانا حضرت موسیٰ کاظم نے فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان کے پیشانیوں پر سجدہ کے نشان ہوں گے۔

اس روایت کے مطابق امام اعظم کی امام موسیٰ کاظم سے ملاقات اور کسب فیض بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے امام صاحب کو اہلبیت کے تین پشتوں کے تین جلیل القدر ہستیوں کی معیت زیارت اور تلمذ کا شرف اور کسب فیوض ظاہر یہ و باطنہ کا زریں موقع ہاتھ آیا زبے نصیب۔ حضرت سیدی وسندی شاہ سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ کا دو مرتبہ بغداد کا سفر ہوا فرماتے ہیں۔ آج بھی امام موسیٰ کاظم اور امام اعظم دونوں بغداد میں دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے آسودہ خاک ہیں امام صاحب والے کنارے کو اعظمیہ اور امام موسیٰ کاظم والے کنارے کو کاظمیہ کہتے ہیں۔ اور حضرت امام کاظم کے احاطہ میں ہی حضرت قاضی ابو یوسف بھی مدفون ہیں۔

امام اعظم کے دور کے سیاسی حالات

امام ابوحنیفہ نے بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کا دور پایا ان کا سیاسی مزاج اور طرز حکمرانی کو قریب سے دیکھا کہ وہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے شدید دشمن تھے تاہم ان کی آپس میں کئی چیزیں قدر مشترک تھیں ایک یہ کہ

دونوں نے اہلیت دشمنی کی انتہا کر دی اور دوسری دونوں اپنی حکمرانی کو سب چیزوں پر ترجیح دیتے تھے۔ دونوں کا الگ الگ مختصر سیاسی حالات و خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔

(اموی دور)

اموی دور خلافت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں آنے والے جن سلاطین نے خود کو شرعی خلیفہ کہلوا یا وہ قطعاً اس کے اہل نہیں تھے سوائے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے کہ وہ واقعی استحقاق رکھتے تھے۔ ان کا دور پر امن دور تھا آل رسول نے صرف انہی کے دور میں چین و سلکون حاصل کی اور ان کی عزت افزائی کی گئی اور حضرت علیؑ اور آل رسول کو برا بھلا کہنا سخت ممنوع قرار پایا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ دیگر امراء کے دور میں کثرت سے بد امنی رونما ہوئی بہت سے ممتاز دینی رہنماؤں کو ایذا نہیں دی گئیں اور بہت سے صحابہ کرامؓ اور تابعین ائمہ فقہا ان کے شوریدہ سر کی کا شکار ہو کر شہیدان راہ وفا کے قافلہ کے شریک سفر ہوئے۔ ان مظالم کو وہ لوگ حکومت کے وجہ سے کوئی دینی حرج نہیں خیال کرتے تھے چنانچہ جب انصار مدینہ کی اولاد نے یزید کی بیعت توڑ دی تو اس نے اپنے لشکر کو حرم رسول میں کھلی چھٹی دی چنانچہ جو جی میں آیا کیا گیا۔ نہ شریعت کی کوئی پرواہ نہ حرمت رسول کا پاس رکھا گیا تین دن تک حرم رسول ویران رہا نہ نماز اور نہ ہی اذان اس سے بڑھ کر حرماں نصیبی کیا ہے اور پھر جب حضرت سیدنا حسینؑ نے بیعت نہ کی تو بزور شمشیر بیعت کروانے کی کوشش ہوئی لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حضرت حسینؑ یزید کی حکومت کو اسلامی نظریہ کے خلاف جانتے تھے چنانچہ میدان کربلا میں یزید کے اعموان و انصار نے نواسہ رسول کو خاک و خون میں تڑپا دیا اور اہل خاندان کو بھی ناحق تہ تیغ کیا۔ اس میں بھی نہ قرابت رسول کی پرواہ کی نہ دینی تقاضوں اور ہدایات کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت حسینؑ کے جسد اطہر کی توہین کی اور ان کے مبارک سر کو دمشق تک لے جایا گیا اور آپ کے بچے کچھے اہل و عیال کو قیدیوں کی طرح یزید کے پاس لے جایا گیا۔ اگر یہ یزید کے منشا و مرضی کے بغیر ہوا تو کس کو اس حادثہ پر سزا دیا کس کو تہ تیغ کیا گیا یا کس کو معزول کیا گیا۔ پھر اموی دور حکومت کے آخر میں خصوصیت سے علوی سادات کو نشانہ عتاب بنایا گیا۔ خصوصاً حضرت زید بن علیؑ اور ان کے بیٹے یحییٰ اور عبداللہ بن یحییٰ ایک ایک کر کے بے گناہ شہید کر دیئے گئے۔

علوی سادات پر اتنی سختی تھی کہ حضرت علی کا نام مجالس میں نہ لیا جاتا اور سر عام آپ کو برا بھلا کہا جاتا یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اموی سربراہ حکومت کو اس پر تکبیر میں خط لکھا لیکن آپ کے خط کو بھی پرکاش کی حیثیت نہ دی (تا آنکہ حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کا مبارک دور آیا تو یہ نام مبارک سلسلہ ختم ہوا) اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف لشکر کشی کی گئی کعبۃ اللہ کی حرمت بہت بڑی طرح پامال کر دیا گیا اور کعبہ پر سنگ باری کی گئی یہاں تک کہ امن کا گہوارہ باوجود اپنے برکتوں کے خون میں نہا گیا یہاں بھی کئی دن عبادت کا سلسلہ منقطع رہا۔ اموی گورنر حجاج جسے حضرت حسن بصریؒ نے اس امت کا فرعون قرار دیا ہے اس نے تو اہل بیت دشمنی کی حد کر دی بڑے کبار تابعین اور صحابہ گو جب آل رسول کے جرم میں شہید کیا جن میں سربراہ آوردہ شخصیت حضرت سعید بن جبیرؓ کی ہے۔ اموی دور حکومت میں ایک خرابی قومی عصیبت کی پیدا ہوئی عربوں اور غیر عربوں کے درمیان گہری خلیج پائی گئی جس کا امت کو سخت نقصان ہوا۔

عباسی خلافت:

عباسی خلافت کی تحریک چلانے والوں نے بنو امیہ کے مظالم اور نا انصافی جو انہوں نے علویوں کے ساتھ روا رکھی تھی کو اپنا نعرہ بنایا جس سے بہت سے علوی سادات کو تکالیف پہنچیں بالآخر خلافت بنو عباس کو ملی تو عباسی دور کے ابتدائی خلفاء کے دور میں سادات کی حوصلہ افزائی اکرام و احترام کا معاملہ کیا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ عباسی خلفاء کو علوی سادات جن کے بدولت ان کو خلافت ملی سے رقابت پیدا ہو گئی اور منصور عباسی کے دور میں یہ معاملہ اپنے انتہا کو پہنچا چنانچہ اس نے حضرت محمد نفس زکیہ اور امیرا جیم کو شہید کر دیا اور حضرت عبداللہ بن حسنؓ کے پورے خاندان کو قید و بند میں ڈال دیا اور سادات پر شک کیا جانے لگا اور ان کی نگرانی کی جانے لگی اور ان کے ساتھ دینے والوں کے لئے بھی زمین تک کر دی گئی۔ اس طرح یہ دور بھی اسی ڈگر پر آ گئی جس پر بنو امیہ چلتی رہی تھی۔ جس طرح بنو امیہ کے دور میں حضرت علیؓ کا نام لینا مشکل تھا اسی طرح بنو عباس کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لینا مشکل تھا۔

امام اعظم کا سیاسی نظریہ اور اس کی بنیاد:

امام اعظم نے اموی و عباسی دونوں دور دیکھے اس دوران آپ کو دونوں کے خیالات نظریات قریب و دور سے دیکھنے کا موقع ملا آپ کی سیادت و جاہت اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت اور اہل علم میں آپ کی شہرت سے خائف ہو کر دونوں ادوار کے حکمرانوں نے آپ کو قریب کرنا چاہا لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی تاہم اسی کشمکش میں آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ہاتھ آیا۔

چنانچہ آپ کے فتاویٰ دروس اور تعلقات میں کئی مواقع پر وقت کے حکمران کے مخالفت میں جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ جن کی تفصیل آئیگی۔

آپ کی طبیعت اور قلبی میلان بنو عباس اور بنو امیہ کے مقابلہ میں حضرت سیدنا علیؑ کے اولاد کی جانب تھا جو کہ حضرت فاطمہؑ کے لطف اطہر سے تھے اور یہی میلان آپ کے ابتلاء کا سبب ہوا۔

دوسرا سبب امام صاحب کی اہل بیت کی تائید و نصرت اور اموی و عباسی امراء کی سرعام مخالفت کا مرکزی نقطہ نظر اور سبب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ غالبہ تھا۔ کیونکہ امام صاحب کے دور کے عالم استبداد میں امر بالمعروف کے بارے میں دو قسم کی رائیں پائی جاتی تھیں۔

ایک یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ساقط ہے کیونکہ جبارہ ڈکٹیٹرز کی حکومت ہے لہذا امر بالمعروف کا رگر نہیں۔ اس گروہ کی دلیل حدیث ابو ثعلبہؓ تھی۔ اور ایک گروہ جو کہ ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قائل تھا۔ حضرت امام صاحب بالکل قول و سطر کے قائل تھے کہ امر بالمعروف کا حکم بالکل ساقط تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے لئے صورتیں بنائیں اور اتنی طاقت حاصل کریں کہ امر بالمعروف موثر ہو چنانچہ اسی نظریہ کے تحت حضرت زید بن علیؑ کی حمایت کی چنانچہ احکام القرآن میں امام بھصا ص نقل کرتے ہیں کہ:

وإن وجد عليه أحوالنا صالحين ورجالنا يرأس عليهم مامونا على دين
الله لا يحول —

ہاں اگر ایسے صالح رفقا میسر آئیں اور ایک آدمی ان کی قیادت کرے یہ آدمی ایسا ہو جو

اللہ کے دین میں قابل اعتماد ہو اور اپنے مسلک سے نہ لٹے۔

تاہم اگر کوئی انفرادی امر بالمعروف کرتا ہے اور اس کی پاداش میں قتل ہوتا ہے تو وہ شہید اور مجاہد کہلاتا ہے۔
جیسا کہ علامہ عینی احناف کا مسلک بیان کرتے ہیں۔

لوعلم انہم يصبر على من ضربهم ولم يشكوا إلى أحد فلا بأس به و هو
مجاهد۔^۱

اگر سمجھتا ہے کہ مخالفین کی مار دھاڑ ظلم اور نا انصافی پر صبر کرے گا اور کسی کے آگے اس کا
شکوہ نہیں کرے گا تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں ایسے آدمی کے لئے
کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ وہ مجاہد ہے۔

حضرت امام صاحب کے ہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم انفرادی سے بڑھ کر اجتماعی عمل اور حکم
ہے۔ جس کے لئے طاقت ضروری ہے خصوصاً حکومت وقت کی اصلاح کے لئے۔ اور سیاسی خاندانی علمی اور روحانی
مرجع الخلائق شخصیت ہی اس عمل کو اپنے تابعین کے حمایت سے بجالا سکتی ہے۔ یہ خصوصیت کبار اہل بیت مثلاً حضرت حسینؑ،
حضرت زید بن علیؑ، اور ان کے بعد حضرت محمد بن عبداللہؑ اور حضرت ابراہیم بن عبداللہؑ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔
امام ابو بکر الجصاصؒ امام صاحب کی اسی نقطہ نظر کو بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

هذه فريضة ليست كسائر الفرائض لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل
وحدہ۔^۲

امر بالمعروف کا فریضہ دوسرے فرائض کی طرح نہیں کیونکہ دوسرے فرائض آدمی
انفرادی طور پر بخوبی بجالا سکتا ہے۔

اہل بیت عظام اور امام صاحب کے اصلاحی تحریک کی تائید میں دو احادیث مبارکہ نقل کی جاتی ہیں امام
ترمذی روایت کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اعظم الجهاد كلمة عدل
عند سلطان جائر۔^۳

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے۔

اور دوسری حدیث خود امام صاحب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ:

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ۱۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا شہداء کے سردار حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ ہیں اور وہ شخص ہے جو ظالم امام یعنی حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے معروف کا حکم دیا اور منکر سے روکا اس پر اس کو حاکم نے قتل کر دیا۔

حضرت زیدؓ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ غالبہ:

حضرت زید بن علیؓ جن کے ساتھ حضرت امام صاحب نے تعاون کیا وہ فرماتے ہیں کہ ”شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اپنے دین کو حدکماں تک پہنچانے کا اس وقت موقع دیا جب کہ میں رسول اللہ ﷺ سے سخت شرمندہ تھا کہ ان کی امت کو معروف کا حکم کیوں نہیں دیا اور منکر سے کیوں نہیں روکا۔ خدا کی قسم مجھے یہ چیز سخت ناگوار تھی کہ میں محمد رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کروں کہ ان کی امت کو نہ معروف کا حکم دیا ہوتا نہ منکر سے روکے ہوتا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور رسول ﷺ کی سنت کو جب میں نے درست کر لیا تو اس کے بعد مجھے قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ میرے لئے آگ بجائی جائے اور مجھے اس میں جھونک دیا جائے۔“ ۲

حضرت زید نے اپنی قسم کو پورا کر دکھایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پاداش میں آپ کی لغش مبارک دو سال کے عرصہ تک حکومت نے تختہ دار پر چڑھائے رکھا۔

احادیث مبارکہ اور حضرت امام صاحب کا نظریہ اور فرامین اور خود حضرت زید کی وضاحت کے بعد بھی اگر

کوئی سادات کرام کی اصلاح و تجدید دین کے مساعی جمیلہ و مشکورہ پر انگشت نمائی کرے تو اس کا جواب اس کے سوا
کیا ہوگا کہ اسے اپنی عاقبت سے کوئی سروکار نہیں۔

حضرت سیدنا زیدؓ کی تائید و نصرت:

حضرت زیدؓ بر لحاظ سے اپنے وقت میں دوسرے تمام اہل بیت میں سربر آوردہ شخصیت تھے چنانچہ امام جعفر
الصادقؑ جو کہ آپ کے جتیجے ہیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔

”واللہ میرے چچا ہم لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے والے سب سے
زیادہ اللہ کے دین میں سمجھ رکھنے والے اور رشتہ کا خیال کرنے والے تھے خدا کی قسم دنیا
و آخرت دونوں کے لئے یعنی دونوں کے متعلقہ مسائل کے لئے انہوں نے ہمارے
خاندان میں اپنے جیسا آدمی نہیں چھوڑا“۔

بڑے بڑے کبار تابعین فقہاء محدثین مثلاً سلمہ بن کہیلؓ - شعبہ بن حجاج سفیان ثوریؓ وغیرہم نے آپ کے
لئے عقیدت و محبت کا والہانہ اظہار کئے ہیں اور آپ کی جدوجہد کی تائید و تصویب کی ہے۔

حضرت زیدؓ کے ساتھ امام صاحب کے رابطے:

حضرت زیدؓ نے ہشام بن عبد الملک کے دور حکومت میں اصلاح کی تحریک اٹھائی آپ کوفہ میں تشریف
لائے روایات کے مطابق امام صاحب بھی حضرت زیدؓ کی حمایت کے لئے لوگوں سے کہتے تھے۔ حضرت زید اور امام
صاحب کے درمیان باقاعدہ مخصوص قاصد ہوتے تھے جن کے ذریعے امام صاحب مشورے پہنچایا کرتے اور مالی
تعاون بھیجا کرتے تھے ایک قاصد کا نام فضیل بن زبیر تھا اس کا بیان ہے۔

كنت رسول زيد بن علي إلى أبي حنيفة۔

میں ابوحنیفہ کے طرف حضرت زید کا قاصد ہوا کرتا تھا۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اہل بیت کی سخت نگرانی ہوتی تھی خصوصاً کوفہ میں لہذا لازمی امر ہے کہ امام صاحب بھی

نگرانوں کی نظروں میں ہوں گے کیونکہ آگے کے واقعات اس خیال کی پوری تصدیق کرتے ہیں۔
بلازری نے انساب الاشراف میں لکھا ہے۔

قال وبعث (زيد) إلى أبي حنيفة فكاد (أن) يغشى عليه فرقا وقال للرسول
من أنا من الفقهاء فقيل له - سلمة بن كهيل ويزيد بن أبي زياد وهاشم
البريد وأبو هاشم الرمانى وغيرهم فقال لست أقوى على الخروج و
بعث إليه بمال قواد به۔

ترجمہ! حضرت زید نے امام ابوحنیفہ کے پاس اپنا تا صد بھیجا امام ابوحنیفہ حضرت کے غم فرقت
میں نڈھال تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ حضرت زید کے پاس فقہاء میں سے کن کا آنا جانا
زیادہ ہے بتایا گیا سلمہ بن کھیل، یزید بن ابی زیاد، حاشم البرید، ابوہاشم الرمانی وغیرہ۔ فرمایا
مجھ میں خروج کی طاقت نہیں لیکن آپ نے نقد مال بھیجا تا کہ اس سے ان کو تقویت ہو۔
امام ابی طالب یحییٰ بن حسین الحارونی الحسنى الافادۃ میں فرماتے ہیں۔

ومن الفقهاء الذين اختلفوا إليه وأخذوا عنه أبو حنيفة وأعانہ بمال
کثیر۔

ترجمہ! فقہاء میں سے جنہوں نے آپ سے ملاقات کی اور علم حاصل کیا ان میں سے امام ابو
حنیفہ ہیں جنہوں نے حضرت زید کی بہت سے مال کے ساتھ معاونت کی

آپ کی محبت اہل بیت اہل بیت کے زبان سے:

ابوالفرج الاصبھانی نے مقاتل الطالبيين میں حضرت زید کے حالات میں لکھا ہے۔

حدثني علي بن عباس قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله
بن مروان بن معاوية قال سمعت محمد بن جعفر بن محمد في
دار الامارة يقول رحم الله أبا حنيفة قد تحققت مودته، لنا في نصرته زيد
بن علي۔

اللہ ابوحنیفہ پر رحمت فرمائے تحقیق ان کی محبت جو ہم سے ان کو تھی وہ متحقق ہوگئی ہے جس

طرح انہوں نے حضرت زید سے معاونت کی

مقاتل الغالبین ہی میں حضرت زید کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم نے حضرت زید کے پیامبر فضیل بن زبیر سے کہا۔

قل لزيد لك عندى معونة وقوة على جهاد عدوك فاستعن بها أنت
وأصحاب فى الكراع والسلاح۔
ترجمہ! اے فضیل حضرت کو میرا یہ پیغام دیجیے کہ آپ کے لیے آپ کے دشمن کے خلاف
میرے پاس اسباب تعاون ہے آپ اس سے اپنے ساتھیوں کے لیے سامان و اسلحہ کا
بندوبست فرمائیں

امام صاحب کو حضرت زیدؓ کی تحریک کی کامیابی کے بارے میں شدید فکر لاحق تھی چنانچہ تحقیق کرتے رہتے تھے اور حضرت زیدؓ کو قیمتی مشورے دیا کرتے اور دیکھتے کہ حضرت زیدؓ کے ہاں کن لوگوں کا آنا جانا ہے انہی مقاصد فضیل کا کہنا ہے کہ حضرت امام صاحب نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت زیدؓ کے پاس کن کن فقہاء کا آنا جانا ہے۔ اسی سے آپ کی فکر اور دلچسپی معلوم ہوتی ہے۔

یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک میں حضرت زیدؓ کا منشور دیکھا جائے فرماتے تھے۔
”ہم تم لوگوں کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت
دیتے ہیں اور تمہیں بلاتے ہیں کہ آؤ اور ظالموں سے جہاد کرو اور جو کمزور ہو گئے ہیں ان
کو ظلم سے بچاؤ جو اپنے حقوق سے جو محروم کئے گئے ہیں ان کے حقوق ان تک پہنچاؤ اور
مسلمانوں کا یہ مال جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے اس کو مساوی طور پر مسلمانوں میں
تقسیم کرایا جائے“

آپ کے ان اعلیٰ مقاصد کے لئے اٹھائی گئی تحریک میں روافض کے علاوہ بہت سے لوگ شامل ہو گئے۔
لیکن بعد میں بہت تھوڑے رہ گئے اور کوفہ والے مدد کے لئے نہ پہنچ سکے کیونکہ اموی کورنر کو قبل از وقت پتہ لگا اس
نے کوفہ کے لوگوں کو محاصرہ کر کے نکلنے نہ دیا۔

امام صاحب کا فتویٰ حضرت زید کے تائید میں:

آپ نے فرمایا کہ حضرت زید امام برحق ہیں آپ کی تحریک بھی برحق ہے میں آپ کا ساتھی ہوں۔ مناقب
کئی میں ہے۔

كان زيد بن علي أرسل إلى أبي حنيفة يدعوهُ إلى نفسه فقال أبو حنيفة
لرسوله لو علمت أن الناس لا يخذلونهُ و يقومون معه قيام صدق لكنت
أتبعهُ وأجاهد معه من خالفه لأنه إمام حق لكنني أخاف أن يخذلوه كما
خذلوا أباه۔

حضرت زید نے قاصد حضرت امام ابوحنیفہ کے پاس بھیجا کہ ان کو اپنی طرف دعوت
دے تو امام صاحب نے اس قاصد سے کہا اگر مجھے یقین ہوتا کہ لوگ بروقت آپ کا
ساتھ چھوڑ نہ دیں گے اور آپ کی امانت میں ثابت قدم رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ
جہاد میں شرکت کرتا آپ کے مخالفین کے ساتھ جب کہ آپ والد کو (حسین علیہ السلام) کو رسوا
کیا کیونکہ آپ امام برحق ہیں لیکن مجھے خوف ہے کہ لوگ آپ کو رسوا کریں گے۔

حضرت زید کا جہاد بدر کی جہاد کی طرح ہے:

حضرت زید کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا:

فقال خروجه يضا هي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر۔

فرمایا حضرت زید کا جہاد کے لئے نکلتا آنحضرت ﷺ کے بدر کے دن نکلنے کے مشابہ ہے۔

یعنی آپ کے ہاں حضرت زید کا جہاد جو انہوں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے شروع کی اس کی قدر

وقیمت اور درجہ و شان غزوہ بدر کی طرح ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر حضرت زید کے حمایتی تھے۔

مختلف النوع امداد

امام صاحب خود بعض شرعی امداد کے وجہ سے نہیں جا سکے لیکن آپ نے بحیثیت ایک مفتی اور مذہبی رہنما

کے حضرت زید کے بارے میں درجہ بالا فتویٰ دے کر اپنا پورا حصہ ڈال دیا۔ کیونکہ آپ جیسے مشہور و معروف مرجع الائمہ فقہیہ وقت کا فتویٰ وہ کام کر سکتی ہے جو ایک لشکر شاید ہی کر سکے۔

لیکن آپ نے صرف زبانی نصرت کے بجائے مالی طور پر پورا پورا مدد فرمایا بذریعہ قاصد مشاورت الگ ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے۔

وَبَعَثَ إِلَيْهِ بَعْشَرَةَ آلَافٍ دَرَاهِمًا ۖ

ان کے طرف دس ہزار درہم بھیجے۔

تاہم آپ بعض شرعی اذکار کے وجہ سے بنفس نفیس شرکت نہ کر سکے جس کا آپ نے اظہار کیا۔ کہ میرے ذمہ امانتیں ہیں جسے کوئی دوسرا اپنے ذمہ لیتا نہیں دوسرا یہ کہ آپ کو حضرت زید کے اعوان و انصار پر اعتماد نہیں تھا۔ امام صاحب کے خدشہ کے مطابق واقعہ ہوا کہ آخر میں بہت کم لوگ رہ گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان دنوں میں آپ بیمار تھے۔

شہادت زیدؑ:

علم و عمل تقویٰ اور غیرت علی الحق کا پیکر صبر و استقامت کا پہاڑ اسلام کی سچی اور حقیقی عظمت و شوکت کے بحالی کے لئے برسر پیکار سیدنا زید بن علیؑ نے کوفہ میں قیام کیا اور لوگوں کو نصرت کی دعوت دی چنانچہ اہل کوفہ میں سے بعض روایات کے مطابق 15000/- پندرہ ہزار اور بعض روایات میں چالیس ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

آپ کے اصلاحی تحریک کے ان ایام میں پورے عراق کا گورنر یوسف بن عمر تھا آپ نے اعلان جہاد کے لئے یکم صفر المنظر ۱۲۲ھ بدھ کی رات کی تعیین فرمایا۔ دشمنان اہل بیت نے اہل کوفہ کو شہر کی مسجد اعظم میں محصور کر دیا تا کہ امام صاحب کی نصرت نہ ہو سکے۔ اور حضرت امام صاحب پر لشکر کشی کی۔ اس سبب امام زید کو قبل از وقت ہی مقابلہ میں اترنا پڑا۔

اس تاریخی معرکہ میں دونوں لشکروں کے تناسب میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مورخ طبری کے بقول

حضرت زید کے ساتھ ۲۱۸ مجاہد تھے اور بعض روایت میں ۳۱۳ بھی مندرج ہیں۔ جبکہ دشمن پندرہ ہزار کاشکر کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ یہ حضرت زیدؓ کے فطری شجاعت اور عزم و توکل کا عظیم مظاہرہ تھا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ کئی روز تک چلتا رہا۔

اہل کوفہ کے طرف سے پیمان شکنی نہ ہوتی راز افشا نہ ہوتا تو آپ ضرور کامیاب ہوتے مگر یہ پیکر شجاعت جبل استقامت اپنے چند فدائیوں کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یہاں تک کہ رات کو اچانک آپ کی پیشانی مبارک کی بائیں جانب ایک تیر لگا اور دماغ میں پیوست ہو گیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آگئے حران بن زید کے گھر میں قیام پذیر تھے وہیں پرشتیر نامی طبیب کو لایا گیا اس نے پیشانی سے تیر کھینچا تیر کے نکلنے کے ساتھ ہی آپ کی ہمدت درو سے چیخ نکل گئی اس کے چند لمحے بعد آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔

آپ کے ساتھی آپ کے جسد اطہر کے بارے میں سخت پریشان ہوئے کہ اس کو کہاں دفن کر کے چھپائیں کیونکہ حکومت والوں کو معلوم ہونے کی صورت میں شدید بے حرمتی کا خدشہ تھا۔ چنانچہ مٹی نکالنے کے ایک گھڑے میں ایک نالے کے کنارے دفن کر کے اس پر پانی چھوڑ دیا۔ لیکن حکام نے شقاوت کو بھی شرمادیا۔ آپ کے ایک سندی غلام کے ذریعے قبر معلوم کر لی اور آپ کے جسد اطہر کو نکالا اور جمعہ کو آپ کا سر مبارک کاٹ کر حجاج بن قاسم کے ذریعے یوسف بن عمر کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کے جسد اطہر کو سولی دی۔ ان کا آپ کو سولی دنیا اتنی ناپاک جسارت تھی کہ جس کا تصور ناممکن تھا چنانچہ اللہ پاک نے ان کو اس جرم کا سزا دیا کہ کتنے ہی اموی حکمرانوں گورنروں کی لاشوں کو عباسی نکال نکال کر سولی دیتے تھے۔

آپ کا ایک بیٹا یحییٰ وہاں سے نکل کے خراسان گئے لیکن وہاں بھی ان کو تلاش کیا گیا ایک معرکہ میں آپ کو فتح ہوئی لیکن پھر ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے کہ چھاپہ پڑا اور مقابلہ میں شہید کر دیئے گئے۔ آپ کی شہادت کی خبر جب امام ابوحنیفہ کو پہنچی تو بہت زیادہ رونے جب بھی آپ کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کی ہچکلی بند ہو جاتی۔ اور حضرت زید کے دوسرے بیٹے جنہیں حسین ذوالدعہ بھی کہتے ہیں۔

حضرت امراہیم اور ذوالنضس الزکیہ کے ساتھ شریک جہاد رہے ان کے شہادت کے بعد مدینہ میں روپوش

رہے حضرت جعفر صادق کے گھر رہے اس دوران ان سے جملہ علوم میں کسب فیض کیا۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد بھی حضرت جعفر صادق کے گھر میں رہے تھے اس لئے آپ کی تعلیم اور پرورش دونوں حضرت ہی کے ہاں ہوئی۔ جب حکومت نے پیچھا کرنا ترک کیا تو پھر ظاہر ہوئے۔ سیدی و مولائی مرشدی و سندھی حضرت اقدس شاہ سید نفیس الحسنی دامت برکاتہم بھی آپ کے اولاد اطہار میں اور آپ کے علوم و محاسن کے علمبردار ہیں۔

اموی حکمرانوں نے طرف سے ابتلا:

آپ نے دیکھا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک زید بن علیؑ کس قدر بلند درجہ و مرتبہ رکھتے تھے ان کے جہاد کو بدر کے جہاد سے تشبیہ دیتے اور ان کے علم و فضل اخلاص و دین کے خت مداح نظر آتے ہیں اور ان کو خلیفہ برحق کہتے ہیں حتی الوسع ان کی مالی مدد و نصرت بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے جہاد میں شریک ہو سکیں آخر الامر ان کو بے وردی سے شہید کئے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر اس عظیم المرتبت شخصیت کے نعش کے ساتھ تو ہیں ہوتے دیکھتے ہیں تو امام صاحب جیسے صاحب غیرت علی الحق کے لئے یہ سب ناقابل برداشت نہیں ہوگا؟ چنانچہ بعد میں امویوں کو اپنے ارشادات و وعظ و دروس میں مطلع کیا ہوگا کیونکہ اس کے بعد آپ کو اموی حکومت سے جو مصائب پہنچے وہ اس موقف کے لئے موید ہیں۔ جن کی تفصیل اس طرح ہے۔

مناقب موفق کئی اور دیگر اصحاب مناقب اور کتب رجال و تاریخ میں اجمالاً و تفصیلاً یہ واقعات محفوظ و منقول ہیں۔ کہ اموی خلیفہ کے عامل کوفہ یزید بن عمر بن حمیرہ نے امام ابوحنیفہ کو بلا کر محکمہ قضا یا خزانہ کی حفاظت و ذمہ داری آپ کو تفویض کرنی چاہی اس طرح وہ حضرت امام ابوحنیفہ کے طبعی رحجان اور ان کے اہل بیت کے طرف میلان کو پرکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ امام صاحب اہل بیت کے حامی ہیں اور اموی دور حکومت میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں قبول کرنے والے لہذا اس بہانے ان سے حساب چکانے کا موقع ہاتھ آئے گا اور حضرت زید سے تعلقات ان کی امداد اور ان کے حق میں دینے گئے فتوے اموی حکمرانوں سے مخفی نہ تھے۔ لیکن ان کی وجاہت اور شہرت اور حلقہ ارادت کے خوف سے بغیر الزام کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔

ابن ہبیرہ کی سازش اور امام صاحب کی بصیرت:

علامہ مکی رقمطراز ہیں

ابن ہبیرہ اموی دور میں کوفہ کا حاکم تھا عراق میں جب فتنے برپا ہو رہے تھے تو ابن ہبیرہ نے عراق کے علماء و فقہاء کو اپنے گھر کے دروازے پر جمع کیا ان میں ابن ابی لیلیٰ ابن شبرمہ اور داؤد بن ابی ہنداج بھی تھے اس نے ہر ایک کو ایک ایک منصب تفویض کیا۔ امام ابوحنیفہ کو بھی کہلا بھیجا وہ انہیں سرکاری مہر سپرد کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی فرمان ان کی مہر کے بغیر جاری نہ ہو سکے۔ اور نہ ہی بیت المال سے کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر نکل سکے۔ امام ابوحنیفہ نے انکار کر دیا۔ ابن ہبیرہ نے یہ پیش کش نہ قبول کرنے کی صورت میں زدوکوب کا حلف اٹھایا۔ ان تمام فقہاء نے حاضر ہو کر امام ابوحنیفہ سے کہا۔ ”خدا را اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے ہم آپ کے ساتھی تھے ہم خود بھی ان عہدوں کو ناپسند کرتے ہیں مگر کیا کریں قبولیت کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں امام صاحب نے فرمایا:

لوأرادني أن أعدله أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلك فكيف
هو يريد مني أن يكتب دم رجل يضرب عنقه وأختم أنا على ذلك
الكتاب فوالله لأدخل في ذلك أبداً

اگر امیر مجھے شہر واسط کے مسجد کے دروازے شمار کرنے کا حکم بھی دے تو میں اس کے تعمیل کے لئے تیار نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کسی کو قتل کرنے کا حکم صادر کرے اور میں اس پر مہر ثبت کروں بخدا میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔

امام صاحب کی استقامت:

اس پر ابن ابی لیلیٰ بولے انہیں چھوڑیے یہ درست کہتے ہیں اور باقی سب غلطی پر ہیں۔ کتوال نے آپ کو قید کر لیا اور متواتر کئی روز تک کوڑے مارتا رہا۔

جبل استقامت عزم و ہمت کا پیکر نے پورے جذبے کے ساتھ ان مظالم کو برداشت کیا اور اتنا صبر سے کام لیا کہ خود جلا داور جیل والے حیران ہو گئے کہ اس پر تو سزا کا ٹیکس اثر نہیں ہو رہا چنانچہ جلا د نے آکر ابن ہبیرہ سے کہا۔
 ”وہ شخص تو جسد بے روح ہے“

ابن ہبیرہ نے کہا کہ ان سے کہئے کہ ہماری قسم پوری کریں جلا د کے پوچھنے پر امام صاحب کے فرمایا۔ ”اگر وہ مجھے مسجد کے دروازے شمار کرنے کا حکم بھی دیں تو میں اس کی تعمیل کے لئے تیار نہیں“ جلا د پھر ابن ہبیرہ سے ملا وہ بولا اس قیدی کو کوئی سمجھانے بچھانے والا نہیں کہ یہ مجھ سے مہلت ہی طلب کرے تو میں دینے کے لئے تیار ہوں امام ابوحنیفہ کو پتہ چلا تو فرمایا: ”مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس پر ابن ہبیرہ نے آپ کے رہائی کا حکم دیا تو آپ نے اس کے قید سے نکلتے ہی مکہ المکرمہ کی راہ لی۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم ﷺ نے خواب میں ابن ہبیرہ کو ڈانٹا کہ تو نے امام صاحب کو قید کیا ہے تو اس نے چھوڑ دیا۔

امام صاحب کی مکہ ہجرت:

- اس تاریخی واقعہ سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔
- ۱۔ یہ کہ اموی حکمران و ثمال آپ کے ہاں شرعی تقاضوں کو پورے نہ کرنے والے اور حقوق کو دبانے والے تھے۔ اس لئے آپ نے ان کی حکومت کا حصہ بننا کسی درجہ میں بھی پسند نہ کیا۔
 - ۲۔ یہ کہ اہل معصیت اور جاہلوں کے ساتھ نہیں دینا چاہئے چاہے اس کی کتنی بڑی بھاری قیمت بھی کیوں نہ ادا کرنا پڑے اور عزیمت اسی کا نام ہے اور امام صاحب کی پوری زندگی عزیمت کی انہی داستانوں سے عبارت ہے۔
 - ۳۔ بات یہ کہ جب آدمی کے دین پر بن آئے تو ہجرت کرنی چاہئے اسی لئے امام صاحب نے مکہ کی طرف

ہجرت کی کیونکہ آپ کا موقف درست تھا اور آپ نے اس سے انحراف نہیں کرنا تھا اس لئے مزید امتحان سے بچنے کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور مویوں کے دور کے خاتمہ تک وہیں قیام پذیر رہے اسی دوران ہی آپ نے بڑے بڑے تابعین محدثین فقہاء اور ائمہ اہل بیت سے کس فیض کیا۔ امام عطاء امام مالک امام جعفر صادق امام عبداللہ بن حسن اور دیگر کبار ائمہ کی ایک فہرست ہے۔ مکہ کے لئے یہ سفر آپ نے ۳۰ ہجری میں کیا۔ اسی دوران ہی آپ نے حرمین میں اپنا حلقہ درس قائم کیا جس کا ذکر گزر چکا۔

روایت کے مطابق آپ ابو جعفر منصور کے دور میں جب عباسیوں کی حکومت آئی تو واپس کوفہ آئے موفق کی

بیان کرتے ہیں۔

فأقام بمكة حتى صارت الخلافة للعباسية فقدم أبوحنيفة الكوفة في

زمن أبو جعفر المنصور۔

ترجمہ: پس آپ نے مکہ میں قیام کیا یہاں تک کہ عباسوں کی خلافت آگئی پس ابوحنیفہ

کوفہ آئے منصور کے دور میں

ابن ہبیرہ کے جلاوٹوں کے مارنے سے آپ کا سر سوج جاتا تھا اور آپ کے تکلیف اور غم سے آپ کی والدہ کو سخت تکلیف ہوئی تو آپ روئے اور فرمایا کہ مجھے ان کے ظلم و مار کی اتنی تکلیف دکھ نہیں جتنی میری ماں کی تکلیف اور پریشانی کا غم ہے۔ ابن ہبیرہ اور آپ کے درمیان پیش آنے والے واقعات کو صحیح طرح سمجھنے سے ہمیں امام صاحب کی آئندہ کی زندگی کے بارے بہت سی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام صاحب کی عزم و حوصلہ اور عالی ہمتی ہے کہ آپ نے حالات کا اکیلا مقابلہ کیا اور کسی لمحہ بھی موقوف میں کمزوری نہیں آنے دی یہی صفت اپنے اہل بیت کے کبار مشائخ میں انہوں نے دیکھی تھی۔

عباسی دور اور ان سے امام صاحب کے تعلقات

امام ابوحنیفہ اپنے قیام مکہ کے بعد منصور کے دور میں واپس کوفہ میں مستقل آئے تو منصور ان کی بہت تعظیم کرتا

اور آپ سے محبت کرتا اور ہدایا پیش کرتا لیکن امام صاحب ہدایا کو حکمت سے واپس کرتے مناقب موفق میں ہے کہ

فقدم أبو حنيفة الكوفة في زمن أبي جعفر المنصور فجعل أبو جعفر

يعظم أبا حنيفة و يحبه و أمر له بجائزة عشرة آلاف درهم و جارية فلم
يقبلها أبو حنيفة

پس امام ابو حنیفہ منصور کے دور میں کوفہ آئے پس وہ آپ کی بہت تعظیم کرتا اور
اظہار محبت کرتا اور دس ہزار درہم اور لونڈی ہدیہ پیش کیا تو امام صاحب نے قبول نہیں
کیا۔

عباسی خلافت کے داعیوں نے اہل بیت علویوں کے حمایت کے نام پر خلافت حاصل کی تو شروع میں ان
کے ہاں ہر وہ شخص معزز تھا جو کہ اہل بیت کا محب تھا جس کے ساتھ بنو امیہ نے زیادتیاں کی تھیں ان کے ساتھ یہ
مہربانیاں کرتے تھے۔ اور امام صاحب کی اہل بیت سے محبت اور حضرت زید کی نصرت اور اسی سبب امویوں کے
ہاتھوں آپ کو پھینچنے والی تکلیف اور مظالم بھی ان کے نظر میں تھیں اس لئے امام صاحب سے محبت اور ان کی تعظیم
لازمی چیز تھی اسی کی طرح موفق نے اشارہ کیا ہے اور عباسیوں نے بھی منصور کے دور میں نفس ذکیہ اور ان کے بھائی
کے تحریک تک اہل بیت سے اچھے معاملات رکھے اور ان کے ساتھ امداد اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ رکھی اس لئے
امام صاحب بھی ان کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے لیکن رفتہ رفتہ عباسیوں اور اہلبیت میں کچھ پیدا ہوا
اور عباسی خصوصاً منصور نے اہل بیت کو خلافت میں شریک نہیں کیا بلکہ اس نے اہل بیت کو اپنے خلافت کے لئے خطرہ
سمجھا چنانچہ ان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے حقیقت میں جس منشور کے تحت عباسیوں کو خلافت ملی اس سے انہوں
نے انحراف کیا اس لیے لوگوں نے بنیادی کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی۔

محمد بن عبداللہ ذوالنفس الزکیہ کی تحریک:

سادات حسنی کے بزرگ حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن جو کہ امام صاحب کے استاد ہیں اور مدینہ میں قیام
پذیر تھے منصور کو ان سے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حسن کو خاندان سمیت ہاشمیہ لاکر قید کر دیا چنانچہ
قید ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔

حضرت زید اور ان کے بیٹوں کے شہادت کے بعد سادات حسینیہ گویا کہ تحریک سے باز رہے تو سادات

حسدیہ نے تحریک کی قیادت سنبھالی اور حضرت عبداللہ بن حسن کا خاندان اس ضمن میں سب سے سبقت لے گئی چنانچہ آپ کے ایک بیٹا محمد ذوالنفس الزکیہ نے ۱۴۵ھ میں مدینہ منورہ سے تحریک اٹھائی عباسیوں کے خلافت سے پہلے خود منصور نے بھی حضرت نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی امام مالک سمیت کئی کبار علماء و فقہاء اور مدینہ اور مکہ کے تمام لوگوں نے حضرت محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

امام مالک کا فتویٰ:

امام دارالہجرۃ حضرت انس بن مالک نے آپ کے حق میں فتویٰ دیا۔ اور حمایت کا اعلان کیا۔ اور لوگوں کو امداد و نصرت کی تلقین کی چنانچہ ابن جریر اور ابن کثیر کے مطابق امام مالک نے نفس زکیہ کے ہاتھ بیعت خلافت کا فتویٰ بھی دیا جب آپ سے کہا گیا کہ ہماری گردن پر ابھی تک منصور کی بیعت سوار ہے تو آپ نے فرمایا۔
 ”تمہیں بیعت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے مجبور آدمی کی بیعت معتبر نہیں۔ امام مالک کے فتویٰ کے مطابق لوگ ان کی بیعت کرنے لگے لیکن امام مالک اپنے گھر ہی بیٹھے رہے۔“

حضرت امام مالک کو اس فتویٰ کے سبب سخت تکالیف اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا گوڑے کھائے اور مختلف طریقوں سے آپ کی سخت توہین کی گئی۔ آپ پر اتنی کوڑا زنی ہوئی کہ آپ کے دونوں بازو بھی نکل گئے آپ نے امام محمد کے تحریک کے دوران ”بینین مستکرہ“ کا مسئلہ باوجود منصور کے سختی سے منع کرنے کے زور اور شور سے بیان کیا جس سے امام محمد کے تحریک کو خوب فائدہ ہوا آپ کو مدینہ منورہ سے دیار نبی ہونے کے سبب اتنی محبت تھی کبھی اس سے جدا ہونا پسند نہ فرمایا۔ اور آپ ہی ہاں یہ مسلمہ ضابطہ ہے جو کہ صاحب مدارک نے نقل کیا ہے۔

قال ابن نافع كان مالک يري أن الحرمین إذا ما بايعوا لزمت البيعة لأهل الاسلام ۷

ترجمہ: ابن نافع فرماتے ہیں کہ امام مالک کے ہاں جب مدینہ اور مکہ جس کسی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں تو تمام اہل اسلام کے لیے ان کا عمل معتبر ہے۔

حضرت ذوالنفس الزکیہ کے ہاتھ پر اہل حریمین نے بیعت کی اور عمال بنو امیہ کو بے دخل کیا تھا اور یہ گس طرح قیاس میں آنے والی بات ہے کہ امام مالک صاحب نے ساتھ نہیں دیا۔ امام مالک نے ساتھ دیا اسی وجہ سے ہی فوراً بعد آپ کو سخت سزائیں دیں سرعام تذلیل کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے۔

امام صاحب کی کامیاب حکمت عملی:

ادھر کوفہ میں امام ابوحنیفہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ سادات کی تائید اور منصور کے مخالفت میں متحرک تھے آپ دوران درس و تدریس علانیہ ان کی نصرت کی تلقین کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ نے منصور کے بعض اہم فوجی افسروں کو اہل بیت کے خلاف لڑنے سے روک دیا تھا۔

روایات میں موجود ہے کہ منصور کا ایک سپہ سالار حسن بن قطلبہ امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا ”میرا جو کام ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں کیا اس سے تو بہ ممکن ہے“ امام صاحب نے جواباً فرمایا ”جب خدا کو معلوم ہو جائے کہ تم اپنے کئے پر نادم ہو اور اگر تمہیں اپنی جان کو ہلاک کرنے یا کسی مسلمان کو قتل کرنے میں اختیار دے دیا جائے تو تم اپنی جان کو تباہ کرنا گوارا کر لو لیکن مسلم کا قتل تمہیں پسند نہ ہو اور خدا سے عہد کر لو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ان شرطوں کا پورا کرنا ہی تمہاری تو بہ ہے۔“

حسن نے کہا ”مجھے منظور ہے میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ میں کسی مسلم کو بھی قتل نہ کروں گا“

حسن بن قطلبہ جو کہ منصور کا قریبی اور قابل اعتماد سالار لشکر تھا اس کا کام ہی منصور کے خلاف انھنے والوں کا قلع قمع کرنا تھا اور کئی مواقع پر اس نے یہ ذیولنی انجام دی۔ امام صاحب کے فراست و حکمت سے اس سے یہ باور کرایا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ ناجائز ہے اس لئے اس کو باز رکھنے کا سوچا اور اسے بھی یہ بات سمجھ میں آئی اور باز رہا۔

ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کا خروج:

اسی اثناء میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن علوی کے خروج کا واقعہ پیش آیا اور یہ بھی ۱۴۵ھ میں ہی پیش آیا اور بصرہ سے اس کا آغاز ہوا اور امام ابراہیم کو کئی علاقوں میں کامیابی نصیب ہوئی۔ امام ابراہیم پہلے تو اپنے بھائی نفس زکیہ کے ماتحت تھے لیکن ان کے شہادت کے بعد لوگوں سے اپنے لیے بیعت لیا یہ رمضان کا واقعہ ہے جیسا کہ صاحب الافادۃ اور صاحب مقاتل نے بیان کیے ہیں۔

چنانچہ منصور نے انہی حسن بن تھلبہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم کے خلاف لشکر کشی کریں۔ تو حسن امام اعظم کے پاس آیا اور بتایا کہ منصور نے یہ حکم دیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہاری تو بہ کا وقت آچکا ہے اگر تم نے اپنے عہد کو پورا کیا تو تم تا سب شہرہ گے ورنہ پہلے اور پچھلے سب گناہوں میں ماخوذ ہو گئے۔ اس نے تو بہ کی کوشش کی اور جان ہتھیلی پر رکھ کر منصور کے دربار میں حاضر ہوا اور بانگ دہل کہا ”کہ میں اس طرف کا رخ بھی نہیں کروں گا“ اگر تمہارے احکام کی تعمیل خدا کی اطاعت کا سبب ہے تو میں یہ سعادت بہت حاصل کر چکا اور اگر خدا کی نافرمانی ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں“۔

اس جواب پر منصور سخت ناراض ہوا بہت ہیچ و تاب کھایا کیونکہ سب سے پرانا قابل اور سب سے وفادار جرنیل اس کے سامنے اس کے حکم سے سرتابی کر رہا تھا اس طرح حسن نے اپنے اس عہد کو پورا کر دیا جو کہ حضرت امام صاحب نے لیا تھا۔ حسن نے کہا تھا

”میں خدا سے عہد کر لیا کہ مسلمانوں کے قتل کا جو کام میں اب تک (حکومت کے اشارے پر) کرتا رہا ہوں اب اس کی طرف کبھی نہ پلٹوں گا“۔

امام صاحب نے جس حکیمانہ طرز سے ایک آزمودہ کار جرنیل کو حضرت ابراہیم سے لڑنے سے روکا یہ ایک

آدمی کو روکنا نہیں بلکہ ایک لشکر کو روکنا ہے دربار میں حسن کا بھائی حمید بن قحطیبہ بھی بیٹھا تھا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر جو اس کے بھائی کخلاف جا رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر المؤمنین تقریباً سال بھر سے ہم لوگ اس شخص (یعنی حسن) کے اندر تغیر دیکھ رہے ہیں اور اسی وقت سے ہمیں اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ یہ غیروں سے میل ملاپ رکھتا ہے۔ سال بھر سے اس کے ہوش حواس بجا نہیں ہے اس لئے میں اس مہم پر جانے کے لئے تیار ہوں۔

یہی حمید ہی وہ بد بخت ہے جس نے حضرت ذوالنفس الزکیہ کے سینے میں نیزہ بھونک دیا اور ان کا سر بھی کاٹا جسے مدینہ سے لا کر کوفہ کے گلیوں میں پھرایا گیا۔ سب سے پہلے حسین کا سر تھا جو کنا پھر زید کا پھر ان کے بیٹوں کا اور پھر عبداللہ بن حسن کے بیٹے محمد اور ابراہیم کا اب اسی حمید بد بخت نے حضرت ابراہیم کے خلاف بھی لشکر کی قیادت کی لعنہ اللہ مار تکب۔

حسن بن قحطیبہ کا اس طرح بغیر لگے لپٹے اور حیل و حجت کے منصور سے بگڑ جانا منصور کے لئے بہت ہی فکر کا باعث تھا۔ چنانچہ اس نے کھوج کے لیے آدمی لگا دیئے کہ دیکھو اس کا آنا جانا کس نقیبہ کے پاس ہے جس نے اس میں اتنی بڑی ذہنی اور فکری تبدیلی لائی ہے۔

منصور کا تعاقب و تحقیق:

چنانچہ کارندوں نے تحقیق احوال کے بعد رپورٹ دیا کہ

إنه يدخل على أبي حنيفة له اس کا آنا جانا ابوحنیفہ کے پاس ہے

حضرت امام صاحب پہلے ہی ان کے نظروں میں تھے اب اور بھی یقین ہو گیا اور انہیں ثبوت ”امام صاحب کے اہل بیت کے طرف داری“ کا حسن کے شکل میں ملا۔ امام موفق کے ایک روایت کے مطابق منصور نے امام صاحب اور حسن دونوں کو زہر بھی دیا تھا۔

اسی طرح منصور کے خفیہ کارندوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ امام ابراہیم بن عبداللہ کا اور امام اعظم اور امام اعمش کے درمیان اس تحریک کے سلسلے میں خط و کتابت جاری ہے۔ منصور نے جب اس کی تحقیق اپنے انداز سے کی

تو پھر امام صاحب کے تعلقات رابطے ظاہر ہوئے۔ یہ واقعہ حضرت امام حافظ ابن عبدالبر اندلسی نے الانتقاء میں تفصیل سے درج کی ہے اور امام کر درمی اور امام موفق نے بھی۔

يقول أبو يوسف- إنما كان غيظ المنصور على أبي حنيفة مع معرفته
بفضله إنه لما خرج إبراهيم بن عبدالله بن حسن بالبصرة ذكر له أن أبا
حنيفة والأعمش يحاطباناه من الكوفة فكتب المنصور كتابين على
لسانه، أحدهما إلى الأعمش والآخر إلى أبي حنيفة من إبراهيم بن
عبدالله بن حسن وبعث بهما مع من يثق به فلما جيئني الأعمش
بالكتاب أخذه من الرجل وقرأه، ثم قام فأطمعه الشاة والرجل ينظر
فقال له ما أردت بهذا قال قل له أنت رجل من بني هاشم وأنتم كلكم
له أحباب والسلام وأما أبو حنيفة فقبل الكتاب و أحابه عنه فلم تزل في
نفس أبي جعفر حتى فعل ما فعل لـ

امام ابو يوسف کہتے ہیں 'بے شک منصور کے غصہ کا سبب باوجود آپ کے قدر منزلت
پہنچانے کے یہ تھی کہ جب ابراہیم نے خروج کیا بصرہ میں تو اسے بتلایا گیا کہ امام
ابوحنیفہ اور امام اعمش کا امام ابراہیم بن عبداللہ بن حسن سے تحریک کے سلسلے میں خط
و کتابت چل رہا ہے۔ منصور نے خود دو خطوط امام ابراہیم کے زبان اور انداز سے لکھ کر
اپنے ایک معتبر شخص کو دیا کہ یہ دونوں خطوط امام ابوحنیفہ اور امام اعمش کو امام ابراہیم کے
طرف سے پہنچاؤ امام اعمش نے قاصد سے خط لیا اور پڑھا اور پڑھ کر بکری کو کھلا دیا اور
جواب دیا کہ ان سے کہو آپ بنو ہاشم والے ہیں آپ کے سب سے تعلقات ہیں
والسلام۔ لیکن امام ابوحنیفہ نے خط قبول کیا اور جواب لکھا اس وقت سے منصور کے ذہن
میں آپ کی دشمنی آئی اور جو اس سے ہوا اس نے کیا۔

اسی طرح امام یحییٰ ہارونی نے الافادۃ میں بھی حضرت امام ابوحنیفہ کا فقہی مشورہ پر مبنی ایک خط درج کیا ہے
جو آپ نے ابراہیم کو لکھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خط منصور کے ہاتھ لگا وہ خط آگے نقل کر دیا جائے گا۔

ابوالفرج لاصبھانی نے بھی امام صاحب کے حضرت ابراہیم کو خط لکھنے کا واقعہ نقل کیا ہے جس میں آپ نے ان کو کوفہ آنے اور خفیہ طور آنے کا مشورہ دیا ہے۔

كتب أبو حنيفة إلى إبراهيم يشير عليه أن يقصد الكوفة ليعينه الزيدية
وقال له إئتياً سراً فإن من هاهنا من شيعتكم يبسون أبا جعفر فيقتلونهم
أياخذون برقبه فيأتونك به ۷

منصور کی کامیاب سازش:

امام کردری کے روایت میں ہے کہ

امام ابوحنیفہ اور امام اعمش دونوں نے جواب لکھے منصور نے جعلی خط اس طرح لکھا تھا
کہ گویا ابراہیم بن عبداللہ نے لکھے ہیں اور ایک معتبر آدمی کے ذریعے امام صاحب کے
پاس بھیجا امام صاحب نے اصلی سمجھ کر اس کا جواب لکھ کر اس کا قصد کو دیا وہ خط لے کر
منصور کے پاس پہنچا ۷

تو منصور کے لئے شک کی گنجائش نہ رہی رہی سہی کسر آپ کے فتاویٰ اور ارشادات نے جو آپ نے حضرت
ابراہیم کے حمایت میں دئے تھے نے پوری کر دی۔

امام صاحب کی اعلانیہ نصرت و تائید:

مقاتل میں امام صاحب کے شاگرد حضرت زفر بن ہذیل کی روایت ہے کہ:

كان أبو حنيفة يجهر بالكلام أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن جهاراً
شديداً ويفتنى الناس بالخروج معه ۷

امام ابوحنیفہ ابراہیم کے خروج کے زمانہ میں علانیہ کھلم کھلا منصور کی مخالفت اور ابراہیم کی
حمایت کرتے تھے اور لوگوں کو ان کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے کا فتویٰ دیتے تھے

امام زفر آپ کے اس بے باکانہ طرز عمل سے تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں آپ اور آپ کے ساتھیوں پر

ابتلاء نہ آجائے۔

آپ حضرت ابراہیم بن عبداللہ کے خروج کو بالکل درست اور جائز جانتے تھے اور آپ کی ان سے رابطہ اور زبانی حمایت کا تذکرہ آپ کے سامنے گذرا حضرت ابراہیم کے خروج کے دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی کہ میرا بیٹا ابراہیم کے ساتھ جانا چاہتا میں اسے منع کرتی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اسے نہ روکیں چنانچہ موافق کی لکھتے ہیں۔

جاءت إمرأة إلى أبي حنيفة أيام إبراهيم فقالت إن ابني يريد
هذا الرجل وأنا أمنعه قال لا تمنعيه^۱

ایک عورت امام ابوحنیفہ کے پاس آئی ابراہیم بن عبداللہ کے خروج کے ایام میں اور کہا کہ میرا بیٹا اس کا ساتھ دنیا چاہتا ہے اور میں اسے منع کرتی ہوں تو امام صاحب نے فرمایا تو اسے منع نہ کر۔

حماد بن امین کہتے ہیں کہ امام صاحب لوگوں کو ابراہیم کے مدد کے لئے ابھارتے تھے۔

كان أبو حنيفة يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم بالتباعد^۲

امام ابوحنیفہ لوگوں کو امام ابراہیم کے مدد کے لئے ابھارتے تھے اور ان کو ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔

ابراہیم کے ساتھ شہادت، بدر کی شہادت ہے

ابوالفرج الاصبہانی مقاتل الطالبین میں اور لإفادة في تاريخ الامم السادة میں امام یحییٰ حارونی اس روایت کو نقل کرتے ہیں

وقال أبو إسحاق الفراءى: حدثت إلی أبي حنيفة فقلت له: ما اتقيت الله
حيث أفنيت أخی في الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن حتى
قتل فقال لي: قتل أحيك حيث قتل يعادل قتله لو قتل يوم بدر
وشهادته مع إبراهيم خير له من الحياة قلت فمامنعك أنت من ذلك

^۱ منقلا من مکتبہ ۳۳۳ ج ۱ ایضاً ج ۱ مقلد الطالبین ص ۳۲۲ الامامہ ص ۳۳

قال: ودائع كانت للناس عندى ۷

ابو اسحاق فرازی کہتے ہیں کہ میں امام ابوحنیفہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں کہ آپ نے فتویٰ دیا اور آپ کے فتویٰ کے وجہ سے میرا بھائی ابراہیم کے ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوا۔ آپ نے جواب دیا آپ کے بھائی کا ابراہیم کے ساتھ شہادت اس کی بدر میں شہادت کے برابر ہے اور یہ شہادت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا پھر آپ کیوں رہے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں پڑی تھیں۔

انہی مقاتل ہی کی ایک اور روایت میں اس طرح کا ایک اور واقعہ نقل کیا گیا ہے۔

عن عبد اللہ بن إدريس قال: سمعت أبا حنيفة وهو قائم على درجته ورجلان يستفتيانه في الخروج مع إبراهيم وهو يقول أخرجنا عبد الله بن إدريس روايت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے سنا جب وہ اپنے گھر کے میز میوں پر کھڑے دو آدمیوں کے ابراہیم کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے بارے پوچھنے پر فتویٰ دے رہے تھے کہ جاؤ ان کے ساتھ ہو کر جہاد کرو۔

حضرت ابراہیم کی نصرت کا مقام امام صاحب کے نگاہ میں:

آپ حضرت ابراہیم کے خروج کو اتنی قدر کے نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے کو پچاس حج سے بھی افضل قرار دیتے تھے ابراہیم بن سوید روایت بیان کرتے ہیں۔

سألت أبا حنيفة وكان لي مكرما أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن فقلت أيما أحب إليك بعد حجة الاسلام الخروج إلى هذا أو الحج فقال غزوة بعد حجة الاسلام أفضل من خمسين حجة ۷

میں نے امام ابوحنیفہ سے جو کہ میرے نزدیک قابل احترام تھے امام ابراہیم کے خروج

کے دنوں سوال کیا کہ ایک فریضہ حج بجالانے کے بعد آپ کے نزدیک ابراہیم کی مدد کرنا زیادہ پسندیدہ ہے یا حج بیت اللہ کو جانا۔ آپ نے فرمایا فریضہ حج بجالانے کے بعد غزوہ میں شرکت پچاس حج سے بہتر ہے۔

آپ کے سامنے جب بھی ذوالنفس الزکیہ کا تذکرہ ہوتا تو بے ساختہ آپ کے آنسو جاری ہوتے۔ اہل بیت کے تذکرہ کے وقت تو رقت طاری ہو جاتی تھی۔

حضرت ابراہیم کی شہادت:

حضرت ابراہیم بن عبد اللہ نے بصرہ سے خروج کیا تھا کئی علاقے فتح کر کے کوفہ کے طرف آرہے تھے کہ کوفہ سے ۲۸ میل دور باخمیری کے مقام پر منصور کی لشکر سے سخت مقابلہ ہوا پہلے حضرت ابراہیم کو فتح حاصل ہوئی لیکن چونکہ امام صاحب کے ساتھ آخر میں بہت تھوڑے آدمی رہ گئے تھے۔ اچانک حضرت ابراہیم کو حلق میں تیر لگا اور آپ نے قبائے شہادت زیب تن کیا بعد ازاں بد بختوں نے آپ کا سر کاٹ کر منصور کے پاس بھیجا۔ ویسے بھی بھائی ذوالنفس الزکیہ کے شہادت کی خبر سن کر دل ٹوٹ چکا تھا۔ چنانچہ سادات حسینہ کا یہ روش آفتاب بروز سوموار ابتدائی ذی الحجہ ۱۲۵ھ میں باخمیری کے مقام پر غروب ہوا ان پر ہی حسنی سادات کے تحریکوں کا بھی اختتام ہو گیا ان کے والد حضرت امام صاحب کے استاد حضرت عبد اللہ بن حسن بھی بیٹوں کے شہادت کے بعد جیل میں ہی شہید ہوئے حضرت ابراہیم کے شہادت کے دنوں میں منصور کوفہ میں فروکش تھا تا کہ کوفہ والے بغاوت نہ کر سکیں اس دوران اس کی عتقابی ننگا ہوں سے امام صاحب کے معمولات اور رجحان مخفی نہ رہا۔ کوفہ کے حالات اتنے دگرگوں ہو گئے تھے کہ منصور کئی دفعہ حوصلہ ہارنے لگا تھا۔ اس کی شتر کینگی آگے جا کر ظاہر ہوئی۔

امام ابو حنیفہ کی حق گوئی و بیباکی

اہل موصل نے منصور سے عہد شکنی کی تھی۔ اس نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ عہد شکنی کی صورت میں وہ مباح الدم ہو جائیں گے منصور نے فقہا کو جمع کیا امام ابو حنیفہ بھی تشریف فرما تھے منصور بولا کیا یہ درست نہیں کہ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا المؤمنون علی شروطہم مومن اپنے شرطوں کے پابند ہیں اہل موصل نے عدم خروج کا وعدہ کیا تھا اور اب انہوں نے میرے حال کے خلاف بغاوت کی ہے (یاد رہے کہ اہل موصل نے اہل بیت کے حق میں خروج کیا تھا) لہذا ان کا خون حلال ہے ایک شخص بولا آپ کے ہاتھ ان پر کھلے ہیں اور آپ کا قول ان کے بارے میں قابل تسلیم ہے اگر معاف کر دیں تو آپ معافی کے اہل ہیں اور اگر سزا دیں تو وہ ان کے کئے کی پاداش ہوگی۔

منصور امام ابوحنیفہ سے مخاطب ہو کر بولا آپ کی کیا رائے ہے۔ کیا ہم خلافت نبوت کے حامل امن پسند خاندان نہیں ہیں۔

امام نے فرمایا "اہل موصل نے جو شرط لگائی وہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے اور جو شرط آپ نے ٹھہرائی وہ آپ کے حدود اختیار میں نہیں۔ کیونکہ مومن تین صورتوں میں مباح الدم ہوتا ہے لہذا آپ کا ان پر گرفت کرنا بالکل ناروا ہوگا اور خدا کی ارشاد کردہ شرط پورا کئے جانے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ منصور نے فقہا کو چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر خلوت میں امام صاحب کو بلا کر کہا۔ اے شیخ فتویٰ وہ درست ہوگا جو آپ کا ہوگا اپنے وطن کو تشریف لے جائیے اور ایسا فتویٰ نہ دیجئے جس سے خلیفہ کے مذمت کا پہلو نکلتا ہو کیوں کہ اس سے باغیوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔"

اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام صاحب حق بات کہنے سے ذرہ برابر خوف نہ کھاتے تھے منصور امام اعظم ہی کو سب سے زیادہ فقیہ اور اعلم سمجھتے تھے سب سے اہم بات کہ منصور کو جتنا امام صاحب کے فتویٰ سے خوف ہوتا تھا اتنا تو کسی لشکر سے بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام صاحب، اہل بیت اور مخیمین اہل بیت کی دفاع سے کبھی ناغل نہیں رہتے تھے۔

امام صاحب کا استقلال و فکر و نظر:

واہب لاہری نے حضرت امام صاحب کو استقلال فکر اور محبت و عقیدت میں ایسی سلامت روی سے نوازا

تھا جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ آپ دوسروں کے انکار میں جذب نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ ہر مسئلہ میں پوری سلامت روی سے فکر و نظر کو کام میں لاتے اور اسے عقل سلیم کے میزان میں تولتے یہ بات آپ کے اساتذہ نے خصوصی طور پر نوٹ کیا تھا۔ اپنے کبار اساتذہ سے مختلف موضوعات پر بھرپور بحث و تحقیق فرماتے اور بالآخر اسی بات کو تسلیم کرتے جو سنت رسول اور اقوال صحابہ اور تعامل صحابہ سے موافق پاتے۔

آپ نے پیچھے پڑھا کہ امام صاحب نے اموی دور میں جب علویوں پر عرصہ حیات تک تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ کا نام تک لینا مشکل تھا جو ان کا نام لیتا حکومت کے نظروں میں باغی اور مشکوک قرار دیا جاتا ایسے گھٹن کے ماحول میں آپ نے نہ صرف حضرت علیؑ کا نام لیا بلکہ ان کا نظریہ بیان کرتے اور اس کی تصویب و تائید کرتے اور ان کے رائے کو اپنے ہاں پسندیدہ قرار دیتے جس کے بارے میں معتبر تاریخی شواہد سامنے آگئے ہیں۔

حضرت عثمان غنیؓ کا عادلانہ دفاع:

اور بعد میں جب عباسیوں کی حکومت آئی تو امویوں پر عرصہ حیات تک ہوگئی اور علمی مجالس اور باروں میں سیدنا عثمان غنیؓ کا نام تک نہ لیا جاتا اس انتہا میں بھی ہمیں امام صاحب کی سلامت روی کھل کر دکھائی دیتی ہے کہ آپ ہی ہیں جو کہ سیدنا عثمان غنیؓ کے نام ایوا ہیں چنانچہ آپ کے شاگرد حضرت ابن عربہ فرماتے ہیں۔

قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة ، فذكر يوماً عثمان بن عفان

فترحم عليه فقلت له ترحم وأنت برحمتك الله فما سمعت أحداً في

هذا البلد ينترحم على عثمان بن عفان غيرك فعرفت فضله

میں کوفہ آ کر امام ابوحنیفہ کے مجلس میں حاضر ہوا ایک روز آپ نے حضرت عثمان بن

عفان کا ذکر کیا اور ان کے لئے دعا و رحمت فرمائی میں نے کہا اس شہر میں صرف آپ ہی

حضرت عثمان کے حق میں رحمت کی دعا فرماتے ہیں اور کوئی شخص ایسا نہیں اسی سے میں

نے آپ کی قدر و منزلت و فضیلت کا اندازہ کیا۔

یہ ہے وہ حریت فکر جو نہ عوام کے سامنے جھکتی نہ خواص میں اپنا وجود مٹاتی اور نہ بغض و محبت اس پر اثر اندازہ ہو سکی۔ آپ افراط و تفریط محبت و نفرت کے دونوں انتہاؤں کے درمیان عدل و انصاف حقیقت و صداقت پر مبنی افکار

کے مالک تھے۔

امام صاحب کا حکیمانہ طرز تبلیغ:

کتب مناقب میں ایک اور واقعہ آپ کے سلامت فکر کی تاریخ میں روشن مثال کی طرح موجود ہے کوفہ میں ایک آدمی معاذ اللہ حضرت عثمان ذولنورینؓ کو برا بھلا یہاں تک کہ یہودی کہتا تھا معاذ اللہ جب اسکی جسارت حد سے گزرنے لگی تو امام صاحب ہی تھے جنہوں نے اس کے دریدہ دہنی اور کفریہ شقاوت سے حضرت عثمان غنیؓ کی دامن عصمت و عفت کا تحفظ فرمایا اور اس کا حکیمانہ طریقہ یہ نکالا کہ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا میں آپ کی بیٹی کے لئے ایک رشتہ لیکر حاضر ہوا ہوں، وہ شخص امام صاحب کے قدر و منزلت سے بخوبی آگاہ تھا چنانچہ آپ کی آؤ بھگت کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا قاری و حافظ قرآن ہے عابد شب زندہ دار ہے تقویٰ کا مجسمہ ہے شکل و صورت میں بھی کمال ہے، اس آدمی نے بہت پسند کیا اور بصد شوق آمادگی ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک خرابی ہے اس شخص نے پوچھا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ یہودی ہے اس شخص نے شدید تلمذ رکھا اظہار اور رشتہ سے انکار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو اپنی ایک بیٹی اس شخص کو جس میں سب کمالات ہیں لیکن یہودی ہونے کی وجہ سے رشتہ دینے سے انکار کرنا ہے تو کیا حضور ﷺ کی دو بیٹیاں رقیہؓ اور ام کلثومؓ تیری بیٹی سے کمتر ہیں جو انہوں نے معاذ اللہ تیرے خیال کے مطابق ایک یہودی سے بیاہ دیا، لے

آپ کے اس حکیمانہ طرز استدلال سے وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ اور اپنے خیالات سے توبہ کر کے محب عثمان غنیؓ ہوا۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ پورے کوفہ میں سیدنا عثمان غنیؓ کا دفاع صرف ابو حنیفہؓ کے ذمہ تھا کیا حضور ﷺ کی قرابت داری کے دعویدار حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں تھی اور کیا سیدنا علیؓ پر طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانی گنگ

ہو گئی تھیں۔

دراصل اعتدال و سلامت روی وہ فضیلت اور خصوصیت تھی جو کہ صرف ابو حنیفہ کے لئے مقدر ہوئی تھی۔

بنو عباس کے طرف سے ابتلا:

بنو امیہ کے آخری دور سے لیکر منصور کے دور تک حضرت امام صاحب کی طبعی اور سیاسی رجحانات اور آپ کے ارشادات اور ان کے سبب آپ کو پہنچنے والے مصائب ہر ذی فہم کے سامنے عیاں و بیاں ہے۔ منصور اور اس کے خاندان والے اس سے خوب خوب واقف تھے۔ پھر منصور کے دور میں آپ کی عباسیوں کے بارے میں نظریہ کی تبدیلی اور ان کے اہل بیت گشتی کے سرگرمیوں کی خفیہ و علانیہ مخالفت اور آپ کی اہل بیت سے روابط و اعانت بھی منصور کے نظروں میں تھی اور کئی ایک ثبوت بھی مل گئے تھے۔

منصور کی شتر کینگی سے کب بعید تھی کہ وہ آپ سے اپنے خیال کے مطابق آپ کے باغیانہ سرگرمیوں کا حساب کتاب نہ لے۔ لیکن آپ کی عوام میں قدم و منزلت اور علمی و روحانی ہیبت اور وسیع علمی حلقہ رکھنے کی وجہ سے فوری بدلہ نہ لے سکتا تھا۔ لہذا اس نے بہ ہزار صبر و تاخیر سے کام لیا اور بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا جائے۔

امام صاحب کا اختیار عزیمت:

اس طرح اس کے لئے امام صاحب کے طرف سے انکار اور اقرار دونوں صورتوں میں فائدہ تھا۔ انکار کے صورت میں اس انکار ہی کو جواز بنا کر مزادینے کا موقع ہاتھ آتا اسے یقین تھا کہ آپ انکار ہی کریں گے کیونکہ آپ نے امویوں کے دور میں انہی اسباب و علل کے وجہ سے قضا سے انکار کیا تھا جو کہ اب انہی عباسیوں میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں اور قبول کرنے کی صورت میں امام صاحب اپنا مقام کھوتے اور عباسیوں کی کرسی کے مضبوطی کا سبب بنتے تھے۔ اور آپ کی گذشتہ کاوشوں کی نفی ہوتی اور عباسی حکومت کو ایک مضبوط اور بے باک ناقد سے نجات ملتی۔ چنانچہ آپ کو بغداد طلب کیا گیا اور قضا کا عہدہ پیش کیا گیا۔ حسب توقع انکار فرمایا یہیں سے انتقام و ابتلاء کا آغاز ہوا جو آپ کی شہادت پر ہی ختم ہو رہا۔

بعض حضرات کا اعتراض کہ اگر منصور کو آپ کے حضرات محمد ذوالنفس الزکیہ و ابراہیم بن عبد اللہ کی حمایت پر ناراضگی تھی تو فوری سزا کیوں نہیں دی پانچ سال کا انتظار کیوں کیا۔ تو ان سے عرض ہے کہ اگر فی الفور کارروائی ہوتی حکومت کی طرف سے تو یہ انکا اپنے پاؤں میں کلباڑی مارنے کے موافق ہوتا اور حالات پھر ان کے سنبھالنے نہ سنبھلتا اور تاخیر کی ایک اور وجہ منصور خود کو الزام سے بچانا تھا۔

دوسری بات اموی دور میں سیدنا زید کی حمایت اور ان کی شہادت ۱۲۲ھ میں پیش آئی لیکن امویوں کے طرف سے ابتلا اور انتقام کارروائی کے واقعات ۱۳۰ھ میں پیش آیا۔ فوری کارروائی سے امام کے اور اہل بیت کے موقف کو قبولیت اور شہرت ملتی اور یہ چیز حکمران قطعاً نہیں چاہتے تھے۔

واضح بات یہ کہ آپ کے شاگردوں خصوصاً امام ابو یوسف اور امام زفر دونوں نے امام صاحب کے ابتلا کا سبب صرف اور صرف اہل بیت کی حمایت بتلایا ہے، آخر کیوں امام صاحب کو عامی اہل بیت لکھنے اور کہنے سے کتراتے ہیں۔

حکمرانوں کی خفیہ تدبیریں / سازشیں:

ظالم و جاہل حکمرانوں کا ہی نہیں بلکہ ہر انصاف دشمن طاقت ور کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ مقتدر اور علمی و روحانی طور پر مرجع الخلق شخصیات کو اپنا ہمنوا بنانے اور ان کو اپنے مخصوص حمایتی شیشہ میں اتارنے کے لئے پہلے انعامات و اکرامات اور مختلف بہانوں سے ان کی عزت افزائی سے کام لیتے ہیں جاگیریں ہدایا عہدے وزارتیں کیا کیا انداز ہیں تالیف قلوب کے تاریخ کے اوراق ایسے ہزاروں مثالوں سے بھرے پڑے ہیں اور سچے اور خداترس انصاف پسند بزرگوں کا بھی وطیرہ رہا کہ انہوں نے کبھی بادشاہوں سے سیاسی رشوتوں سے کوسوں بھاگنے میں عافیت دیکھی۔

امام صاحب اس وقت بھی منصور سے ہدایا نہ لیتے جب منصور سے تعلقات کشیدہ نہ تھے نہ ہی منصور میں اہل بیت دشمنی تھی لیکن جب اس کی کرتوت سامنے آئے تب یہ کب گوارا ہو سکتا تھا۔

حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ منصور کے طرف سے آپ کے مؤظا کو ساری ممالک اسلامیہ میں نافذ کروانے کے بیچھے بھی اور اسباب کے علاوہ یہی نامسعود جذبہ بھی کارفرما تھا اس لئے امام مالک نے منصور کو

ختمی سے منع کر دیا۔ چنانچہ آگے جا کر دیکھتے کہ وہی منصور جو کل تک امام مالک کے کتاب کو پوری امت مسلمہ کے لئے دستور حیات اور اس کی تعلیم اور اس پر عمل کو ضروری قرار دلوانا چاہتا ہے وہی ذوالنفس الزکیہ کے خروج کے ایام میں امام مالک کو ان کے حمایت کے جرم میں ابتلاء عظیم اور انتہائی تذلیل کا سرعام نشانہ بناتے ہوئے دکھائی دیتا ہے

الغرض پہلی صورت کارگرنہ ہوئی اور چاراندہ ہتھکنڈوں پر اتر آیا اور قضاء پر اصرار کیا اور انکا رپر کوڑوں کی بارش ہونے لگی اصرار اور کوڑوں کا تسلسل کئی دن تک رہا اور یہ بات تمام مورخین اور سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ چنانچہ امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ حضرت امام اور حکومتوں کے درمیان جاری چپقلش اور اس کے اسباب نپے تلے اور نہایت واضح اور مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور حضرت امام صاحب کی شہادت اور اصلی سبب کے طرف بھی بلیغ اشارہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں۔

ثم إن أبا حنيفة رضى الله عنه قد عرف بمحبته لآل البيت، وإن لم يبلغ درجة التشيع وقد بدت تلك المحبة في العهد الأموي، فتعرض لأذى ابن هبيرة، وبدت في العصر العباسي فتكشف ولاءه لمحمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم وقد نزل به من البلاء بسبب ذلك ما نزل وإن اتخذ المظير سبباً آخر ليخفي ذلك الباعث

بے شک امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تو حسب اہل بیت کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں اگرچہ ان کی محبت اہل بیت پر تشیع کا کچھ رنگ نہ تھا آپ کی اہل بیت سے محبت اموی دور میں بھی کھل کر سامنے آیا اور اس وجہ سے ابن ہبیرہ آپ کے درپے آزار ہوا اور اسی طرح عباسی دور میں آپ کی حضرت محمد ذوالنفس الزکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم سے تعلقات زبان زد نام ہوئے تحقیقاً اس کے بعد امام صاحب کو جو تکلیفیں اور سزائیں پہنچیں وہ اسی حسب اہل بیت کے سبب ہے اگرچہ اس کا سبب ظاہری کچھ اور بتایا جاتا ہے تا کہ اس کی اصلی وجہ پردہ اخفاء میں رہے۔

شہادت ایک حقیقت:

آپ کے شہادت اور اسباب شہادت کے لیے شرعی و قانونی و علمی ثبوت / شہادتیں معتبر اور مستند تاریخوں اور مناقب سے اور مشہور محدث ناقد حفاظ ائمہ و مورخین کے الفاظ کے ساتھ بیان کریں گے چنانچہ امام ابن کثیرؒ اپنی مشہور تاریخ میں منصور کے طریقہ واردات کے طرف لطف اشارہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

ابن کثیر کی شہادۃ

راودہ ابو جعفر المنصور فی أن یلی القضاۃ فامتنع وکان وفاته فی
السجن ببغداد۔^۱

ابو جعفر سے امام صاحب کو عہدہ پیش کر کے پھسلانا چاہا لیکن آپ نے ان کا کیا اور آپ
کی وفات بغداد ذیل میں ہوئی

اس عبارت کو بغور پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات عیاں ہوگی کہ منصور کا قضا، کے پیش کرنے کے پیچھے
پوشیدہ مقصد کارفرما تھا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا یا تو امام صاحب کی حمایت کا حصول یا پھر انتقام کے لئے جواز فہم۔

ابن جوزی کی شہادت

جبکہ مشہور نقاد محدث مفسر و مورخ حافظ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی المعروف ابن الجوزی اپنے مشہور تاریخ
المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں حضرت امام صاحب کے اسباب قید و شہادت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وقیل إنما حبس لأنه تکلم فی أيام خروج إبراهيم علی المنصور
فحبس وتوفی۔^۲

کہا جاتا ہے کہ آپ کو ابراہیم کے خروج کے دنوں ان کے حق میں گفتگو کرنے پر قید کیا
گیا اور قید میں ہی وفات پائے۔

امام ذہبی کی شہادت

امام محدث مورخ کبیر فن رجال کے سرخیل حضرت امام ذہبیؒ اپنی کتاب العبر میں مختصراً اور اپنی کتاب

مناقب ابی حنیفہ میں تفصیل سے امام صاحب کے اسباب ابتلاء اور قید و شہادت پر روشنی ڈالتے ہیں چنانچہ العمر میں رقمطراز ہیں۔

وقد روى أن المنصور سقاه السم فمات شهيداً رحمه الله لقيامه مع
إبراهيم - ۷

بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ منصور نے آپکو کوزہ ہر دیا تھا چنانچہ ابراہیمؑ کے ساتھ دینے کی وجہ
سے انہوں نے شہادت کی موت پائی۔

ابن عبدالبر کی شہادت

امام حانظ ابن عبدالبر مالکی اندلسی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الانتقاء فی فضائل الاممۃ الثمانيۃ اللقبہا“ جو کہ
انہوں نے امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی پر لکھا ہے یہ کتاب قدیم اور مستند ترین کتاب منصور
ہوتی ہے میں حضرت امام زفر اور امام ابو یوسف دونوں کی روایتیں تفصیل سے نقل کی ہیں جن میں اسباب و علل کھل کر
سامنے آگئے ہیں لکھتے ہیں امام زفر بن ہذیل نے فرمایا۔

كان أبو حنيفة يجهر بالكلام أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن جهاراً
شديداً قال فقلت له والله ما أنت بمنته أو توضع الحبال في أعناقنا -
فلم نلبث أن جاء كتاب أبي جعفر إلى عيسى بن موسى: أن أحمل أبا
حنيفة إلى بغداد قال: فغدوت إليه فرأيت راکبا على بغلة وقد صار وجهه
مسوداً كأنه مسخ قال: فحمل إلى بغداد، فعاش خمسة عشر يوماً - قال:
فيقولون إنه سقاه، وذلك في سنة خمسين ومائة - ومات أبو حنيفة
وهو ابن سبعين - ۷

امام ابو حنیفہ ابراہیم بن عبد اللہ کے ایام خروج میں شدید اعلانیہ تائید کرتے تھے میں نے
امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ ہمارے گردنوں
میں رسیاں نہ ڈلوائیں۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ابو جعفر کا پیغام عیسے بن موسیٰ کو آیا کہ

امام ابو حنیفہ کو بغداد پہنچاؤ۔ میں آپ کے پاس آیا تو آپ ایک خچر پر سوار تھے آپ کا چہرہ مبارک سیاہ ہو چکا تھا۔ پس آپ کو بغداد ایجا گیا وہاں آپ پندرہ دن حیات رہے۔ آپ کے بارے ان دنوں کہا جاتا تھا کہ آپ کو زہر پلایا گیا ہے وہ ۱۵۰ھ ہجری کا سال تھا اور امام صاحب کی ۷۰ سال کے عمر کے تھے۔

اور حضرت امام ذہبی نے مناقب ابی حنیفہ میں یہی روایت اس بھی واضح الفاظ کے ساتھ نقل ہے روایت سے شروع ہوتے ہیں کان یجہر فی أمر ابراہیم لہ آپ حضرت ابراہیم کے بارے میں اعلانیہ حمایت کرتے اور اس روایت کے الفاظ اور سیاق و سباق سے یہ بات بھی واضح ہو رہا کہ منصور نے اپنے گورنر کو حکم بھیجا کہ ابو حنیفہ کو گرفتار کر کے بغداد پہنچاؤ اور واقعی پہنچایا گیا۔ کیا یہ عقل مانتی ہے کہ ایک شخص کو اعلیٰ منصب پر فائز کرنے کے لیے پابجولاں لے جایا جاتا ہو۔ اور امام ابن عبد البر نے دوسری روایت جو کہ امام یوسف سے نقل کیا ہے اور انہوں نے اس روایت میں امام صاحب کے قید و بند اور شہادت کے اسباب کو مزید واضح بیان کرنے کے ساتھ منصور کے طرف سے امام صاحب کی اہل بیت کے طرف میلان اور حمایت کے بارے میں کئے جانے والے تحقیق کا ایک منفرد واقعہ بھی نقل کیا ہے لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے فرمایا۔

إنما کان شیظ المنصور علی ابی حنیفة مع معرفتہ بفضلہ أنه لما خرج ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن بالبصرة ذکر له أن ابا حنیفة والا عمش یخاطبانه من الکوفة۔

فکتب المنصور کتابین علی لسانہ أحدهما إلی الأعمش والآ خر إلی ابی حنیفة۔ من ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن، وبعث بہما مع من ینق بہ۔

فلما حیثی الأعمش بالکتاب أخذہ من الرجل وقرأہ، ثم قام فأطعمہ الشاة والرجل ینظر، فقال له: ما أردت بهذا قال قل له: أنت رجل من بنی ہاشم وأنتم کلکم له أحباب، والسلام وأما أبو حنیفة فقبل الکتاب وأجابہ عنہ، فلم تول فی نفس ابی جعفر حتی فعل بہ ما فعل۔

بیشک منصور کی امام ابوحنیفہؒ سے ناراضگی باوجود ان کے فضیلت سے واقف ہونے کے یہ تھی کہ بصرہ سے ابراہیمؒ کے خروج کے پیام میں منصور کو بتلایا گیا کہ کوفہ سے امام صاحب اور امام اعمشؒ ان سے خط و کتابت کر رہے ہیں۔

پس منصور نے ابراہیمؒ کے طرف سے دو جعلی خطوط امام اعمشؒ اور امام ابوحنیفہؒ کو لکھا اور اپنے ایک خاص معتبر آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ خطوط انہیں پہنچے تو امام اعمشؒ نے وہ خط لیا اور پڑھا۔ پھر کھڑے ہو گئے اور وہ خط بکری کو کھلا دیا اور وہ شخص (قاصد) دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا امام اعمشؒ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آپ بنی ہاشم کے آدمی میں اور آپ کے سب احباب ہیں اور سلام کہیں۔ لیکن امام ابی حنیفہ نے اس خط کو قبول کیا اور اس کا جواب لکھ کر دے دیا پس منصور نے اس بات کو اپنے دل میں بٹھالیا یہاں تک کہ جو اس نے کرنا تھا وہ کیا۔

حضرت امام ابو یوسف کی اس روایت نے تمام پردے چاک کر دیئے اور حقیقت چودھویں کے چاند کی طرح کھل کر سامنے آ گیا۔ اب بھی اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ منصور کو آپ سے عقیدت ہونے وجہ سے قضا پیش کیا پھر آپ ذلیل گئے اور اچانک وفات ہو گئی۔ وہ لوگ انجانے خوف سے خوفزدہ ہیں کہ کہیں ہم پر رافضیت کا الزام نہ لگے اسی انجانے خوف ملامت کے سبب کتمان حق کرنے والوں کے لیے۔ امام شافعی کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا۔

إِن كَانَ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ رَفْضُ فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَيْنِ أُنَىٰ رَأْفِضِ
 اگر آل رسول سے محبت کرنا رافض ہے تو تمام انسان اور جنات جان لیں کہ میں رافضی ہوں

یاد رکھنا چاہئے کسی کے ناجائز دعویٰ سے اپنی وراثتی ملکیت کی چیز پر اپنی نہیں ہو سکتی اس طرح کسی کے اہل بیت پر دعویٰ سے وہ ان کے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔

سادات کی شہادت امام اعظم کے شہادت کے بارے میں

امام ابو طالبؑ کی بن حسینؑ الحارونیؑ الحسینیؑ۔ الافادہ میں فرماتے ہیں
 وكان أبو حنيفة يدعو إليه سرا يكاتبه، وكتب إليه "إذا أظفرك الله
 عيسى بن موسى وأصحابه فلا تسرف فيهم بسيرة أبيك في أهل الجمل أنه
 لم يقتل المنهزم ولم يغنم الأموال، ولم يتبع مدبراً ولم يذف على
 جريح لأن القوم لم يكن لهم فئة، ولكن سرف فيهم بسيرته يوم صفين فإنه
 ذف على الجريح وقسم الغنيمة لأن أهل الشام كان لهم فئة. فظفر أبو
 جعفر فستره وبعث إليه فأشخصه وسقاه شربة فمات منياً ودفن بـغداد.
 اس روایت میں امام صاحب کا بذریعہ خط حضرت ابراہیمؑ کو مشورہ دینا اور اس خط کا
 منصور کے ہاتھ لگنا اور اس کے سبب آپ کو شہید کرنا واضح کیا گیا ہے۔

امام مناوی کی شہادت

امام زین الدین مناوی اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے حالات نقل کرتے ہوئے
 لکھتے ہیں۔

أكرهه المنصور على القضاء فأبى فحبسه حتى مات بالسجن
 منصور نے امام اعظم کو قضا پر مجبور کیا تو آپ نے انکار کر دیا اس پر اس نے آپ کو قید کر
 دیا اور جیل میں ہی وفات پا گئے۔
 وكان كل قليل يخرجه فيهدده، ويتوعده يقول والله ما أنا مأمون في
 الرضا فكيف في السخط هكذا حكاة بعضهم في سبب موته ولكن في
 تاريخ الشام مانصه "أخرج أبو الشيخ في التاريخ بسنده عن زفر قال كان
 أبو حنيفة رضي الله عنه يجهر أيام إبراهيم بالكلام جهراً فأقول له
 ماترضي ألا أن توضع الجبال في أعناقنا فلم يلبث أن جاء كتاب
 المنصور بأن يحمل إلى بغداد فعدوت إليه أودعه وهو على بغلته و
 قد أسود وجهه حتى صار كأنه مسح فحمل إلى بغداد فعاش خمسة عشر

یوما سقاہ فقتله سنة خمسين ومائة ۲

تھوڑے وقفے سے آپ کو نکالا اور دھمکایا اور مارا جاتا آپ کہتے کہ میں خوشی میں
ماموں نہ رہا تو ناراضگی میں کیسے امن سے ہوں گا اس طرح آپ کی موت کا سبب بیان
گیا ہے۔ لیکن تاریخ شام میں سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ امام زفر ماتے ہیں کہ
امام ابو حنیفہ ایام ابراہیم میں کھلم کھلا ان کے حق میں کلام کرتے تھے پس میں نے آپ
سے کہا کہ آپ اس وقت تک خاموشی پر راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارے گردنوں
میں رسیاں نہ ڈالوائیں۔ عرصہ نہ گذرا تھا کہ منصور کا خط آیا کہ امام صاحبکو بغداد لایا
جائے پس میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ ایک خچر پر سوار تھے اور
آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا چنانچہ آپ بغداد لیجائے گئے پندرہ دن رہے زہر دے کر
آپ ۱۵۰ میں شہید کیا گیا۔

امام مناوی کی اس روایت میں تاریخ شام کے حوالے سے امام صاحب کے اسباب شہادت کے ساتھ یہ بھی
صاف ہو گیا۔ کہ آپ کو باقاعدہ زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔

قاضی صیری کی شہادت

امام محدث کبیر اور مورخ اسلام فقیرہ وقاضی ابی عبداللہ حسین بن علی الصیری نے اپنی کتاب ”اخبار ابی
حنیفہ و اصحابہ“ میں ہو ہو یہی روایت نقل کی ہے اور ابو نعیم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے فرمایا
فسقی شربة فمات منها ۳

ان کو ایک پینے کی چیز پانی گئی اس سے آپ کا انتقال ہوا

امام موفق مکی کی شہادت

حضرت امام ابو حنیفہ پر سب سے زیادہ تفصیل سے جس نے کتاب لکھی ہے وہ امام محدث مورخ صدر الاممہ
ابو الموبد الموفق بن احمد المکی ہیں امام صاحب کے خیالات رجحانات اور حالات زندگی کا بڑا اور معتبر ماخذ امام مکی ہی

کی ”مناقب ابی حنیفہ“ ہے امام موفق نے امام صاحب کے اسباب قید و بند اور رحلت و شہادت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال یحییٰ بن النضر: لم یشکوا أن أبا حنیفة سقی السم فمات ۛ

یعنی بن نضر نے کہا کسی نے اس میں شک نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا پس شہید ہو گئے۔

ایک اور روایت میں اسباب عداوت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان ابراهیم بن عبداللہ خرج یدعی الخلاقہ بالبصرة فبلغ المنصور ان الاعمش و ابا حنیفہ کتا کتا با الی ابراهیم فکتب المنصور کتابین من لسان ابراهیم الی الاعمش والی ابی حنیفہ فجاءوا بالکتاب الی ابی حنیفہ رحمہ اللہ فاخذہ قبلہ فاتھمہ فسقاہ السم فأخضر و جہہ ومات من ذالک ۛ

بے شک ابراہیم بن عبداللہ نے بصرہ سے اپنے خلافت کی دعوت کے ساتھ خروج کیا منصور کو خبر ملئی کہ امام اعمش اور امام ابو حنیفہ دونوں نے حضرت ابراہیم کو خط لکھے ہیں تو منصور نے ابراہیم کی زبان میں ان دونوں کو خط لکھا اور وہ خط ابو حنیفہ کے پاس لائے تو انہوں نے خط لیا اور جواب دیا اس پر منصور نے امام صاحب پر الزام لگایا چنانچہ آپ کو زہر پلایا آپ کا چہرہ سبز ہوا اور اسی سے وفات پا گئے

نیز صفحہ ۲۲۸ پر امام زفر سے مروی روایت ہے جس میں وہ واقعہ و اسباب بیان کئے ہیں جو حافظ ابن عبدالبر اور دیگر حضرات نے نقل کئے ہیں۔

امام بن حجر مکی کی شہادت

امام حافظ ابن حجر مکی پنجمی الخیرات الحسان فی مناقب النعمان میں تیسرا سبب کے عنوان سے لکھتے ہیں
”بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صرف عہدہ قضا سے انکار پر یہ قتل نہیں ہوا بلکہ امام

ابوحنیفہؒ کے دشمنوں نے خلیفہ کو ابھارا کہ بصرہ میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علیؑ نے بغاوت امام صاحب کے کہنے پر کی ہے اس سے خلیفہ ڈرا اور اس کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا اور یہ کہ امام صاحب نے ان کی مالی قوت بھی بڑھائی ہے۔ خلیفہ ڈرا کہ کہیں خود امام صاحب ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں کیونکہ امام ابوحنیفہؒ و جیہ چہرہ والے تھے اور بہت بڑے مال دار تھے اس لئے ان کو بغداد بلوایا۔ بلاوجہ قتل نہ کر سکتے تھے اس لئے ان کو عہدہ قضا، پیش کیا۔ حالانکہ خلیفہ کو معلوم تھا کہ وہ قبول نہیں کریں گے لیکن صرف اس وجہ سے تاکہ قتل کا کوئی بہانہ ہاتھ آئے۔^۱

ابن حجر رحمۃ اللہ کے ان واضح اور دو ٹوک جملوں کے نقل کرنے کے بعد حقیقت پوری طرح منکشف ہو گئی

ہے۔

امام کردری کی شہادت

امام و حافظ کردری نے بھی پورے شرح و بیوط کے ساتھ اسباب و علل اور واقعہ شہادت کو بیان کیا ہے۔ جس میں انہوں نے آپ کے ساتھ منصور کی عدوات اور اس کے سبب پہنچنے والے ابتلاء کا بنیادی سبب امام صاحب کی حضرت ابراہیم کی حمایت لکھی ہے اور آپ کو جیل میں زہر دیکر شہید کئے جانے کو یقینی و سچی روایت لکھا ہے۔ امام صاحب کو حق کوئی اور منصور پر بے لاگ تنقید سے منصور جتنا زنج تھا اور خوف زدہ رہتا تھا وہ خود منصور کے زبان سے نقل کرتے ہیں۔ جب امام صاحب شہید ہوئے اور جنازہ کے بعد ان کی تدفین کا مسئلہ آیا تو آپ کی وصیت پیش کی گئی آپ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کی صورت میں میری تدفین احاطہ خیر زان میں کی جائے چنانچہ وہیں دفن کئی گئی بعد میں منصور آپ کی قبر پر حاضر ہوا اور نماز پڑھی تو آپ کی وصیت کے متعلق اسے پتہ چلا تو کہا۔

قال من یعدرنی منہ حینا و مینا۔^۲

کون مجھے بچائے اس سے اس کی زندگی میں اور موت کے بعد بھی۔

دراصل جہاں لوگ انہیں ذمہ داری نہیں دیتے تھے وہ منصور کی غصب کردہ قطعہ اراضی تھی اور دریا کے دوسرے کنارے والی جگہ مغمصو بہ زمین نہ تھی۔ اس واقعہ سے بھی امام صاحب کا تقویٰ اور احقاق حق کتنا عیاں و بیاں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ منصور آپ سے کتنا رنجیدہ اور نالاں تھا۔

حضرت امام صاحب پر لوگوں کی ایک کثیر جماعت نے آپ کے مناقب و حالات پر ضخیم تصنیفات لکھی ہیں اور ہم نے ان میں سے مستند اور قدیم معتبر ترین کتب مناقب سے حقائق لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں اب یہ حقیقت جو کل تک چھپائی گئی یا اس کو واضح و بیان کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب آفتاب نصف النہار کی طرح روشن اور واضح ہو گیا ہے اللہ ہمیں حضرت امام صاحب کی صحیح تقلید کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سی عقیدہ استقلال فکر اور استقامت علی الحق عطا فرمائے۔

حدیث ثریا کا سچا مصداق رشد و ہدایت کا چراغ مثل آفتاب استقامت کا پہاڑ امت مسلمہ کا سچا محسن شیداء اہل بیت امام اعظم ابوحنیفہ منصور کی جیل میں رجب یا شعبان میں ۱۵۰ھ میں بغداد میں سجدے کی حالت میں انتقال فرمایا۔

قاضی حسن بن ثمارہ نے غسل دیا اور کثرت اثر حمام سے کئی مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔

(جزی اللہ تعالیٰ عن سائر المسلمین)



فہرست مراجع و مصادر

نمبر شمار	نام کتب	موضوع	نام مصنف
۱	قرآن مجید		
۲	الجامع الأحكام القرآن	تفسیر	الامام القرطبی المالکی
۳	تفسیر مظہری	»	مولانا تھانی ثناء اللہ پانی پتی
۴	تفسیر القرآن العظیم	»	الامام عماد الدین اسماعیل بن کثیر (۷۷۳)
۵	جامع المسانید	حدیث	ابوالموید الخوارزمی
۶	ریاض الصالحین	»	امام شرف الدین محمد بن ذکریا النووی
۷	سنن ترمذی	»	امام محمد بن عیسیٰ الترمذی ۲۷۹ھ
۸	سنن ابی داؤد	»	امام ابی داؤد سلیمان بن شوعب الجستانی الازدی ۲۷۵ھ
۹	سنن نسائی	»	امام احمد بن علی النسائی ۳۰۳ھ
۱۰	سنن ابن ماجہ	»	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوی
۱۱	سنن بیہقی	»	امام احمد بن حسین بیہقی ۴۵۸ھ
۱۲	سنن دارقطنی	»	ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی
۱۳	مسند ابو یعلیٰ الموسلی	»	الحافظ احمد بن علی بن شعیب السجستانی ۳۰۷ھ
۱۴	مسند احمد	»	امام احمد بن حنبل
۱۵	مسند الفردوس	»	الحافظ شہر دار بن شیروانی قزوینی ۵۵۸ھ
۱۶	مجمع الزوائد منبع القوائد	»	الحافظ علی بن ابی بکر الصغری
۱۷	معجم الکبیر	»	سلیمان بن احمد الطبرانی ۳۶۰ھ
۱۸	صحیح البخاری	»	امام ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی

نمبر شمار	نام کتب	موضوع	نام مصنف
۱۹	صحیح المسلم	«	ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری
۲۰	موطأ امام محمد	«	الامام محمد بن الحسن اشعری
۲۱	کتاب الآثار	«	«
۲۲	شرح عقیدة الطحاوی	عقائد	الامام ابن ابی اعتر الحنفی
۲۳	شرح الفقہ الاکبر	«	امام ملا علی قاری احراری
۲۴	شرح عقیدة واسطیة	«	امام ابن تیمیة / محمود خلیل هراس
۲۵	عقيدة الحنفیة	عقائد	محمد عبور بخاری
۲۶	الافادة فی تاریخ الامت السادة	تاریخ / مناقب	الامام یحییٰ بن حسین المهارونی الحسینی (۳۲۳ م)
۲۷	الانتقاء فی فضائل الثلاث الامة القنباة	«	الامام یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر المالکی القرطبی (۳۶۳)
۲۸	الاستجاب	«	الامام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن اسحاقوی (۹۰۲)
۲۹	الامام زید	«	امام ابو زھرہ
۳۰	الامام الصادق	«	«
۳۱	الامام زید بن علی المفتری علیہ	«	شرفیف اشخ صالح احمد الخلیب
۳۲	اخبار ابی حنیفة و اصحابہ	«	الامام قاضی ابی عبد اللہ حسین بن علی الصیمری (۳۳۶)
۳۳	ابو حنیفة	«	الامام محمد ابو زھرہ
۳۴	الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفة العمان	«	الامام أحمد ابن حجر عسقلانی

نمبر شمار	نام کتاب	موضوع	مصنف
۳۵	اصواعق الخرق	"	" "
۳۶	الزیدیہ	"	أحمد محمود سنجی
۳۷	العبر فی خبر من غیر	"	الامام محمد بن احمد شمس الدین الذہبی (۷۲۸)
۳۸	المختصر فی تاریخ الملوک والامم	"	الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی (۵۹۷)
۳۹	الشافعی	"	امام محمد ابو زہرہ
۴۰	ابن حنبل	"	" "
۴۱	الکواکب فذریہ فی تراجم السادة الصوفیہ	"	الامام زین الدین المناذی
۴۲	البدایہ والنہایہ	"	الامام عماد الدین اسماعیل بن کثیر (۷۷۳)
۴۳	الصحیح المسئل الی مباحث لآل والاصل	"	مولانا موسیٰ خان روحانی البازی
۴۴	تبیخ الصیغہ فی مناقب اکی حنیفہ	"	الامام جلال الدین سیوطی
۴۵	تذکرہ	"	مولانا ابوالکلام آزاد
۴۶	تذکرۃ الحفاظ	"	الامام محمد احمد شمس الدین الذہبی (۷۲۸)
۴۷	سیرۃ ابن اسحاق	"	الامام محمد بن اسحاق بن یسار المظنی المدنی (۱۵۱)
۴۸	شوق حدیث	"	مولانا سرفراز خان صاحب، صفدر
۴۹	سیرت النبی اربعہ	"	تقاضی الطہر مبارک پوری

نمبر شمار	نام کتاب	موضوع	مصنف
۵۰	ثورة زيد بن علي	"	ناجی حسن
۵۱	تاریخ بغداد	"	الحافظ ابی بکر أحمد بن علی الخطیب
۵۲	تاریخ طبری	"	الامام ابی جعفر محمد بن جریر الطبری (۳۱۰)
۵۳	ما مک	"	الامام محمد ابو زهره
۵۴	درر السحاب فی مناقب الصحابة والتراپ	"	الامام محمد بن علی الشوکانی
۵۵	کتاب الشفاء	"	فاضل عیاض الماکلی
۵۶	کتاب الام	"	الامام محمد بن اوریس الشافعی
۵۷	فراند المسلمین	"	شیخ الاسلام ابراهیم بن محمد بن المومید الجوینی انجریسانی (۷۳۰)
۵۸	مکتوبات مجدد الف ثانی	"	شیخ احمد مر بندی
۵۹	مناقب ابی حنیفه	"	الامام شمس الدین محمد بن احمد الذھبی
۶۰	مناقب ابی حنیفه	"	الامام الموفق بن احمد انکی (۵۲۸)
۶۱	مناقب ابی حنیفه	"	الامام حافظ الدین ابن البر ازمعروف بالکوردی (۸۲۷)
۶۲	مناقب ابی حنیفه	"	الامام ابو الفرج علی بن حسین الاموی القرشی (۳۵۶)
۶۳	مناقب علی و الحسنین و احمدا فاطمة الزهراء	"	الدکتور عبید المعطی امین قلعجی

نمبر شمار	نام کتاب	موضوع	مصنف
۶۵	مناقب فاطمیہؑ	”	مولانا سید احمد حسن منجیل چشتی
۶۶	امام اعظم ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی	”	مولانا مناظر حسن گیلانی
۶۷	الروض المفیر شرح مجموع الفقہ الکبیر	”	القاضی العلامہ شرف الدین الحسین بن السیاحی
۶۸	البدائع	”	مولانا اشرف علی تھانوی
۶۹	احکام القرآن	”	امام ابو بکر الجصاص

